

گرامر

اردو

Ketabton.com

تألیف : عبدالمنان قائب با پنج سال تحصیلات در کراچی

مکالمہ : ۱ (معرفی)

السلام علیکم و رحمة الله	خالد: السلام علیکم و رحمة الله۔
و علیکم السلام و رحمة الله و برکاته	طارق: و علیکم السلام و رحمة الله و برکاته۔
برادر جان! حال شما چطور است؟	خالد: بھائی جان، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟
الحمد لله خوب ہستم. حال شما چطور است؟	طارق: الحمد لله، خیریت سے ہوں۔ اور آپ کا مزاج کیسے ہے؟
الحمد لله من ہم خوب ہستم. ببخشید! نام گرامی شما چیست؟	خالد: الحمد لله میں بھی صحیح ہوں۔ معاف کیجیے، آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟
نام من طارق است. و نام گرامی شما؟	طارق: میرا نام طارق ہے اور آپ کا اسم گرامی؟
نام من خالد است. نام گرامی پدر شما چیست؟	خالد: میرا نام خالد ہے۔ آپ کے والد صاحب کا اسم گرامی کیا ہے؟
نام پدر من سعید است. و نام مبارک پدر شما؟	طارق: میرے والد صاحب کا نام سعید ہے۔ اور آپ کے والد صاحب کا نام مبارک؟
نام پدر من فاروق است.	خالد: میرے والد صاحب کا نام فاروق ہے۔
شما از کدام کشور ہستید؟	طارق: آپ کس ملک کے ہیں؟
من از افغانستان ہستم. و شما از کجا ہستید؟	خالد: میں افغانستان سے ہوں اور آپ کہاں کے ہیں؟
من از پاکستان ہستم. شما از کدام شهر افغانستان ہستید؟	طارق: میں پاکستان سے ہوں۔ آپ افغانستان کے کس شہر سے ہیں؟
من از شهر هرات ہستم و شما از کدام شهر ہستید؟	خالد: میں ہرات شہر سے ہوں اور آپ کس شہر کے ہیں؟
من از شهر کراچی ہستم. شما در کدام منطقہ زندگی می کنید؟	طارق: میں کراچی شہر کا ہوں۔ آپ کس علاقے میں رہتے ہیں؟
من در منطقہ ملاسیان زندگی می کنیم. و شما کجا زندگی می کنید؟	خالد: میں ملاسیان کے علاقے میں رہتا ہوں۔ اور آپ کہاں رہتے ہیں؟
من در گلشنِ اقبال زندگی می کنم۔	طارق: میں گلشنِ اقبال میں رہتا ہوں۔
من از ملاقات با شما بسیار خوشحال شدم.	خالد: آپ سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔
تشکر از شما دوبارہ ملاقات خواهیم کرد.	طارق: آپ کا شکر یہ پھر میں گے۔

مکالمہ : ۲ {معروفی}

السلام علیکم ورحمة الله	خالد: السلام علیکم ورحمة الله۔
و علیکم السلام ورحمة الله و برکاتہ	طارق: و علیکم السلام ورحمة الله وبرکاتہ۔
آیا شما تذکرہ اشناستامہ دارید؟	خالد: کیا آپ کے پاس شناختی کا روہے؟
بلہ! آیا شما پاسپورت دارید؟	طارق: جی ہاں۔ کیا آپ کے پاس پاسپورٹ ہے؟
بلہ! من پاسپورت دارم.	خالد: جی ہاں، میرے پاس پاسپورٹ ہے۔
ویزای شما چند ماہہ است؟	طارق: کتنے میینے کا ویزہ الگ گیا ہے؟
ویزای من سه ماہہ است.	خالد: تین میینے کا ویزہ الگ گیا ہے۔
آیا راجسٹریشن نمودہ اید؟	طارق: کیا رجسٹریشن کرائی ہے؟
بلہ! راجسٹریشن نمودہ ام.	خالد: جی ہاں، رجسٹریشن کرائی ہے۔
بیخشید شغل شما چیست؟	طارق: معاف کرنا، آپ کا پیشہ کیا ہے؟
من یک دکتر ہستم.	خالد: میں ڈاکٹر ہوں۔
شما چہ کار می کنید؟	آپ کی کام کرتے ہیں؟
من کار موبائل را می کنم.	طارق: میں موبائل کا کام کرتا ہوں۔
معاش/حقوق شما چقدر است؟	آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟
معاش/حقوق من سی ہزار روپیہ است.	خالد: میری تنخواہ میں ہزار روپیے ہے۔
من شما چند است؟	طارق: آپ کی عمر کتنی ہے؟
من من سی سال است.	خالد: میری عمر میں سال ہے۔
شما کجا متولد شدہ اید؟	طارق: آپ کی ولادت کہاں ہوئی؟
من در شهر هرات متولد شدہ ام.	خالد: میں ہرات شہر میں پیدا ہوا ہوں۔
تاریخ تولد شما چیست؟	طارق: آپ کی تاریخ ولادت کیا ہے؟
من در اول اکتوبر سال ۱۹۸۴ میلادی متولد شدہ ام.	خالد: میری ولادت کیم اکتوبر سن ۱۹۸۴ء {انیں سوچوراہی} کو ہوئی۔
دوبارہ ملاقات خواہیم کرد ان شاء اللہ.	طارق: پھر میں گے ان شاء اللہ۔
ان شاء اللہ.	خالد: ان شاء اللہ۔

مکالمہ : ۳ {معرفی}

السلام علیکم ورحمة الله	خالد: السلام علیکم ورحمة الله۔
و علیکم السلام ورحمة الله و برکاتہ	طارق: و علیکم السلام ورحمة الله وبرکاتہ۔
آیا شما متاهل ہستید؟	خالد: کیا آپ شادی شدہ ہیں؟
نه بلکہ مجرد ہستم۔ آیا شما عروسی کرده اید؟	طارق: نہیں بلکہ کنوارہ /غیر شادی شدہ ہوں۔ اور کیا آپ شادی کرچکے ہیں؟
بلہ! من عروسی کرده ام۔	خالد: جی ہاں، میں نے شادی کی ہے۔
شما چند بچہ دارید؟	طارق: آپ کے کتنے بچے ہیں؟
من سه بچہ دارم۔	خالد: میرے تین بچے ہیں۔
شما چند برادر دارید؟	طارق: آپ کے کتنے بھائی ہیں؟
من چھار برادر دارم۔	خالد: میرے چار بھائی ہیں۔
آیا پدر و مادر شما زنده اند؟	طارق: کیا آپ کے والدین زنده ہیں؟
بلہ! الحمد لله هر دو زنده اند۔ و پدر و مادر شما؟	خالد: جی ہاں الحمد للہ دونوں زنده ہیں۔ اور آپ کے والدین؟
مادرم وفات نمودہ البتہ پدر محترم زنده است۔	طارق: میری والدہ فوت ہو چکی ہیں، البتہ والد محترم زنده ہیں۔
زبان مادری شما چیست؟	خالد: آپ کی ماوری زبان کیا ہے؟
زبان مادری من پشتوا است۔	طارق: میری ماوری زبان پشتوا ہے۔
آیا شما فارسی می دانید؟	خالد: کیا آپ کوفارسی آتی ہے؟
نه! و شما پشتوا می دانید؟	طارق: نہیں، اور آپ پشتوجانہ ہیں؟
بسیار کم می دام۔	خالد: بہت کم جانتا ہوں۔
آدرس کامل خانہ شما چیست؟	طارق: آپ کے گھر کا کمل پتہ کیا ہے؟
من در گلستان جوہر، کوچہ شمارہ ۱۰، خانہ شمارہ ۴۰ زنگی می کنم	خالد: میں گلستان جوہر، گلی نمبر ۱۰، گھر نمبر تیس میں رہتا ہوں۔
دوبارہ ملاقات خواہیم کرد ان شاء اللہ، السلام علیکم ورحمة الله	طارق: پھر میں گے ان شاء اللہ، السلام علیکم ورحمة الله۔
و علیکم السلام ورحمة الله و برکاتہ	خالد: و علیکم السلام ورحمة الله وبرکاتہ۔

مکالمہ : ۴ { گفتگوی استاد و شاگرد }

امروز چہ کسی غایب است؟	استاد: آج کون غیر حاضر ہے؟
مصعب غایب است.	شاگرد: مصعب غیر حاضر ہے۔
آیا شما می دانید کہ او چرا غایب است؟	استاد: کیا تمھیں معلوم ہے وہ کیوں غائب ہوا ہے؟
بے عروسی دوستش رفتہ است.	شاگرد: اپنے دوست کی شادی میں گیا ہے۔
شما دیروز چرا غایب بودید؟	استاد: آپ کل کیوں غیر حاضر تھے؟
استاد جان معدترت می خواهم من بسیار شدید مرض بودم.	شاگرد: استاذ جی، معدرت خواہ ہوں، میں بہت سخت یمار تھا۔
هر وقت کدام کاری ضروری پیش می آید باید مرخصی گرفت.	استاد: جب کوئی ضروری کام پیش آئے تو رخصت لینی چاہیے۔
خوب است استاد جان.	شاگرد: ٹھیک ہے استاذ جی۔
امروز چرا شما دیر آمدید؟	استاد: آج تم کیوں دیر سے آئے؟
استاد جان لطفاً ببخشید سیکل / موتور من خراب شدہ بود.	شاگرد: استاذ جی، معاف کیجیے گا، میری موٹرسائکل خراب ہو گئی تھی۔
زود بایست و درس دیروز را بخوان.	استاد: جلدی کھڑے ہو جاؤ اور کل کا سبق مجھے سناؤ۔
ببخشید استاد جان نتوانستم یاد کنم.	شاگرد: معاف کیجیے استاذ جی یاد نہیں کر سکا۔
چرا یاد نکر دی؟	استاد: کیوں یاد نہیں کیا؟
دیروز بسیار مشغول بودم.	شاگرد: کل بہت مصروف تھا۔
درس دیروز را برای یکدیگر بخوانید تا خوب یاد شود.	استاد: کل کا سبق ایک دوسرے کو سناوتا کے اچھی طرح یاد ہو جائے۔
خوب است استاد جان.	شاگرد: ٹھیک ہے استاذ جی۔
آیا مکالمہ ہفتہ گذشتہ را یاد کر دے ای؟	استاد: کیا پچھلے ہفتہ کا حوار یاد کیا ہے؟
الحمد لله من یاد کر دے ام اما پختہ نیست.	شاگرد: الحمد للہ، میں یاد کر چکا ہوں لیکن پکا نہیں ہے۔
آیا درس امروز را فہمیدید؟	استاد: کیا آج کا سبق سمجھ گئے؟
خط سوم را خوب نفهمیدم.	شاگرد: تیسرا لائن اچھی طرح سمجھ میں نہیں آئی۔
دوبارہ تکرار می کنم خوب گوش کنید.	استاد: دوبارہ دہراوں گا خوب سن لیں۔
معنای حمد چیست استاد جان؟	شاگرد: حمد کا معنی کیا ہے استاذ جی؟
معنای حمد است تعریف کردن اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا۔	استاد: حمد کا معنی ہے اشعار میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا۔

مکالمہ : ۵ { گفتگوی مسافر با پولیس }

السلام علیکم ورحمة الله	پولیس: السلام علیکم ورحمة الله۔
و علیکم السلام ورحمة الله و برکاتہ	مسافر: و علیکم السلام ورحمة الله وبرکاتہ۔
لطفا پاسپورت خود را نشان دهید.	پولیس: برائے مہربانی اپنا پاسپورٹ دکھائیے۔
بفرمایید این پاسپورت من است.	مسافر: لیجیے، یہ میرا پاسپورٹ ہے۔
از کجا می آید؟	پولیس: کہاں سے آرہے ہو؟
از افغانستان می آیم.	مسافر: افغانستان سے آرہا ہوں۔
از کدام شہر افغانستان می آید؟	پولیس: افغانستان کے کس شہر سے آرہے ہو؟
از شهر هرات می آیم.	مسافر: هرات شہر سے آرہا ہوں۔
کجا می روید؟	پولیس: کہاں جانا ہے؟
کراچی می رووم۔	مسافر: کراچی جانا ہے۔
بخاطر چہ کاری بہ کراچی می روید؟	پولیس: کس کام سے کراچی جا رہے ہو؟
برای خرید کمی وسائل، کراچی می رووم۔	مسافر: کچھ سامان خریدنے کے لیے کراچی جا رہا ہوں۔
در کراچی کجا اقامت خواہید کرد؟	پولیس: کراچی میں کہاں ٹھہرو گے؟
در یک ہوتل اقامت خواہم کرد.	مسافر: ایک ہوٹل میں ٹھہروں گا۔
آیا این وسائل از شما است؟	پولیس: کیا یہ سامان آپ کا ہے؟
بلہ از من است.	مسافر: جی ہاں، میرا ہے۔
در کیف شما چیست؟	پولیس: آپ کے بیگ میں کیا چیز ہے؟
در کیف من لباس و دیگر وسائل ضروری است.	مسافر: میرے بیگ میں کپڑے اور دیگر ضروری چیزیں ہیں۔
کیف خود را باز کرده و ہمہ وسائل را نشان دهید.	پولیس: اپنا بیگ کھولیں اور سارا سامان دکھائیں۔
باز کردم، نگاہ کنید.	مسافر: کھول دیا، دیکھ لیجیے۔
خوب است بروید.	پولیس: ٹھیک ہے چلے جائیں۔
تشکر از شما۔	مسافر: آپ کا شکریہ۔

مکالمہ : ۶ { گفتگوی مسافر با دریور / راننده }

السلام علیکم ورحمة الله	ڈرائیور: السلام علیکم ورحمة الله۔
و علیکم السلام ورحمة الله و برکاتہ	مسافر: و علیکم السلام ورحمة الله وبرکاتہ۔
برادر! کجا می روی؟	ڈرائیور: بھائی، کہاں جانا ہے؟
من کویتہ می روم۔	مسافر: مجھے کوئٹہ جانا ہے۔
آیا ہمراہ شما کسی دیگر ہم ہست؟	ڈرائیور: کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟
نه! من تنہا ہستم۔	مسافر: نہیں میں اکیلا ہوں۔
آیا شما وسائل دارید؟	ڈرائیور: کیا آپ کے پاس سامان ہے؟
ہمینہایی است کہ شما می بینیںد.	مسافر: یہی سامان ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔
بیا یہ بنشینید.	ڈرائیور: آئیے بیٹھ جائیے۔
چقدر کرایہ می گیرید؟	مسافر: کیا کرایہ لو گے؟
شما چند روپیہ می دھید؟	ڈرائیور: آپ کتنے روپے دیں گے؟
شما بگویید تا آنجا چند روپیہ می گیرید؟	مسافر: آپ بتاؤ وہاں تک کتنے روپے لو گے؟
نه صد روپیہ بدھید.	ڈرائیور: نو سوروپے دے دینا۔
نه صد! شما بسیار زیاد می طلبید.	مسافر: نوسو! یہ تو آپ بہت زیادہ مانگ رہے ہو۔
خوب! شما چقدر می دھید؟	ڈرائیور: تو آپ کتنے دیں گے؟
من شما را پانصد روپیہ می دھم.	مسافر: میں آپ کو پانچ سوروپے دے سکتا ہوں۔
این کہ خیلی کم است، خیر است ششصد روپیہ بدھید.	ڈرائیور: یہ تو بہت کم ہے! چلو چھ سوروپے دے دینا۔
خوب است، دکنی/ صندوق عقب را برای گذاشت وسائل باز کنید.	مسافر: ٹھیک ہے! سامان رکھنے کے لیے ڈگی کھول دو۔
وسائل را بھی من بدھید من می گذارم.	ڈرائیور: سامان مجھے پکڑا دو میں رکھ دیتا ہوں۔
برادر! من عجلہ دارم موتر/ ماشین را تیز برانیںد.	مسافر: بھائی! مجھے جلدی ہے گاڑی تیز چلانا۔
شما بی فکر باشید! ان شاء الله بسیار زود خواہم رساند.	ڈرائیور: آپ فکر نہ کریں ان شاء الله! بہت جلدی پہنچا دوں گا۔
جزاک اللہ! بگیر این کرایہ من.	مسافر: جزاک اللہ! یہ لو میرا کرایہ۔

مصادر

شماره	لغات اردو	ترجمه فارسي	شماره	لغات اردو	ترجمه فارسي
۱	آرمانا	آزمایش کردن	۲۱	اکڑنا	تکبر کردن
۲	انبلنا	جوشیدن	۲۲	اکسانا	تحریک کردن
۳	انبانا	جوشاندن	۲۳	اگنا	روییدن (گیاه)
۴	انجھارنا	تحریک کردن	۲۴	اگانا	رویاندن (گیاه)
۵	انجھرنا	ظاهر شدن / بالآمدن	۲۵	انگلن	فروپردن
۶	انپانا	چیزی را از خود کردن	۲۶	انجھنا	پیچیده شدن / مشغول شدن
۷	انترنا	پایین شدن	۲۷	انجھانا	پیچیده کردن / مشغول کردن
۸	انمارنا	پایین کردن	۲۸	آننا	آمدن
۹	انکنا	چسپیدن / گیر کردن	۲۹	بھولنا	فراموش کردن
۱۰	انکانا	چسپاندن	۳۰	بولنا	صحبت کردن / گپ زدن
۱۱	انٹھنا	بلند شدن / بیدار شدن	۳۱	پیانا	خبر دادن / گفتن
۱۲	انٹھانا	بلند کردن / بیدار کردن	۳۲	پلانا	صدا زدن
۱۳	انجڑنا	خراب شدن	۳۳	بات کرنا	گفتگو کردن
۱۴	انجاڑنا	خراب کردن	۳۴	پڑھنا	درس خواندن
۱۵	انچھنا	ربودن	۳۵	پڑھانا	درس دادن
۱۶	انچھنا	پریدن	۳۶	پہنچنا	رسیدن
۱۷	انچھانا	پراندن	۳۷	پہنچانا	رساندن
۱۸	ازنا	پراندن (پرنده)	۳۹	پلانا	نوشاندن
۱۹	ازنا	پریدن (پرنده)	۴۰	پینا	نوشیدن

ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ
سفر کردن	سفر کرنا	۶۱	پخته شدن	پکنا	۴۱
تعلیم گرفتن	سیکھنا	۶۲	پخته کردن	پکانا	۴۲
تعلیم دادن	سکھانا	۶۳	معرفی کردن	تعارف کرنا	۴۳
فکر کردن	سوچنا	۶۴	مکث کردن / اقامت کردن	ٹھہرنا	۴۴
فهمیدن	سمجھنا	۶۵	مکث کردن / اقامت کردن	ٹھہرانا	۴۵
فهماندن	سمجھانا	۶۶	زندہ ماندن	جینا	۴۶
خوابیدن	سونا	۶۷	رفتن	جانا	۴۷
خواباندن	سلانا	۶۸	سوختن	جلنا	۴۸
خشک شدن	سوکھنا	۶۹	سوزاندن	جلانا	۴۹
خشک کردن	سکھانا	۷۰	سروصدا کردن	چلانا	۵۰
خوردن	کھانا	۷۱	خواستن	چاہنا	۵۱
خوراندن	کھلانا	۷۲	رفتن	چاننا	۵۲
گفتن	کہنا	۷۳	دیدن	دیکھنا	۵۳
کردن	کرنا	۷۴	نشان دادن	وکھانا	۵۴
آوردن	لانا	۷۵	زندگی کردن / ماندن	رہنا	۵۵
ملاقات کردن / یافتن	میلنا	۷۶	گذاشتن	رکھنا	۵۶
ملاقات کردن / وصل کردن	ملانا	۷۷	سوار شدن	سوار ہونا	۵۷
مالیدن	ملانا	۷۸	سوار کردن	سوار کرنا	۵۸
مردن	مرنا	۷۹	شنیدن	سننا	۵۹
زدن	مارنا	۸۰	شنواندن	سنانا	۶۰

شماره	لغات اردو	ترجمہ فارسی	شماره	لغات اردو	ترجمہ فارسی
۸۱	شادی کرنا	عروسی کردن	۱۰۲	پہننا	پوشیدن
۸۲	شادی ہونا	عروسی شدن	۱۰۳	پہننا	پوشاندن
۸۳	شور ہونا	سروصدا شدن	۱۰۴	نمایز پڑھنا	نمایز خواندن
۸۴	شور کرنا	سروصدا کردن	۱۰۵	نمایز پڑھنا	نمایز دادن
۸۵	پکنا	فروختہ شدن	۱۰۶	کھرا ہونا	ایستاد شدن
۸۶	بچنا	فروختن	۱۰۷	کھرا کرنا	ایستاد کردن
۸۷	خریدنا	خریدن	۱۰۸	اوپ کرنا	ادب کردن
۸۸	بننا	ساخته شدن	۱۰۹	الگ کرنا	جدا کرنا
۸۹	بنانا	ساختن	۱۱۰	الگ ہونا	جدا شدن
۹۰	پڑھونا	پرشدن	۱۱۱	ڈرنا	ترسیدن
۹۱	پر کرنا	پرکردن	۱۱۲	ٹورانا	ترساندن
۹۲	کھینا	شکوفا شدن	۱۱۳	کام آنا	بے کار آمدن / بے درد خوردن
۹۳	کھلانا	شکوفا کردن	۱۱۴	جوڑنا	متصل کردن
۹۴	رونا	دادن	۱۱۵	کام کرنا	کار کردن
۹۵	ٹولانا	خواباندن	۱۱۶	کھینا	بازی کردن
۹۶	سینا	دوختن	۱۱۷	پیدا کرنا	محبت کردن
۹۷	بھرنا	پرشدن	۱۱۸	گم ہونا	گم شدن
۹۸	لینا	گرفتن	۱۱۹	گم کرنا	گم کردن
۹۹	بچنا	دوری کردن / محفوظ مائندن	۱۲۰	چڑھنا	بالا رفتن
۱۰۰	بچانا	دور کردن / حفاظت کردن	۱۲۱	ٹوں	شکستہ شدن
۱۰۱	حکمرنا	دستور دادن	۱۲۲	توڑنا	شکستن

ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	اعداد
نوزده	انیس	۱۹	یک
بیست	بیس	۲۰	دو
بیست و یک	اکیس	۲۱	سه
بیست و دو	بائیس	۲۲	چهار
بیست و سه	تینیس	۲۳	پنج
بیست و چھار	چوبیس	۲۴	شش
بیست و پنج	پچیس	۲۵	ھفت
بیست و شش	چھبیس	۲۶	ھشت
بیست و هفت	ستائیس	۲۷	نو
بیست و هشت	اٹھائیس	۲۸	دھ
بیست و نہ	انتیس	۲۹	یازده
سی	تیس	۳۰	دوازدہ
سی و یک	اکتیس	۳۱	سیزدھ
سی و دو	پتیس	۳۲	چهارده
سی و سه	تینتیس	۳۳	پانزدھ
سی و چھار	چوتیس	۳۴	شانزدھ
سی و پنج	پنٹیس	۳۵	ھیفڈہ
سی و شش	چھتیس	۳۶	ھیجڈہ
سی و هفت	سینتیس	۳۷	اٹھارہ

ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	اعداد		
نود و سه	ترانوے	۹۳			
نود و چھار	چورانوے	۹۴	هفتاد و پنج	پچھتر	۷۵
نود و پنج	پچانوے	۹۵	هفتاد و شش	چھہتر	۷۶
نود و شش	چھیانوے	۹۶	هفتاد و هفت	ستر	۷۷
نود و هفت	ستانوے	۹۷	هفتاد و هشت	اٹھتر	۷۸
نود و هشت	اٹھانوے	۹۸	هفتاد و نہ	اناکی	۷۹
نود و نہ	ننانوے	۹۹	هشتاد	اسی	۸۰
صد	سو	۱۰۰	هشتاد و یک	اکاسی	۸۱
دو صد	دوسو	۱۰۱	هشتاد و دو	بیاسی	۸۲
سیصد	تی ان سو	۱۰۲	هشتاد و سه	تراسی	۸۳
چھار صد	چارسو	۱۰۳	هشتاد و چھار	چوراسی	۸۴
یک ہزار	ایک ہزار	۱۰۴	هشتاد و پنج	پچاسی	۸۵
دو ہزار	دو ہزار	۱۰۵	هشتاد و شش	چھیاسی	۸۶
سہ ہزار	تین ہزار	۱۰۶	هشتاد و هفت	ستاسی	۸۷
چھار ہزار	چار ہزار	۱۰۷	هشتاد و هشت	اٹھاسی	۸۸
یک لک	ایک لاکھ	۱۰۸	هشتاد و نہ	نواسی	۸۹
دو لک	دوا لاکھ	۱۰۹	نود	نے	۹۰
سہ لک	تین لاکھ	۱۱۰	نود و یک	اکانوے	۹۱
چھار لک	چار لاکھ	۱۱۱	نود و دو	بانوے	۹۲

ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	اعداد	لغات اردو	شمارہ
پنجاہ و شش	چھپن	۵۶	ترجمہ فارسی	اڑتیس	۳۸
پنجاہ و هفت	ستاون	۵۷	سی و هشت	انتا لیس	۳۹
پنجاہ و هشت	اٹھاون	۵۸	سی و نہ	چالیس	۴۰
پنجاہ و نہ	انٹھ	۵۹	چهل	اکتا لیس	۴۱
شصت	سائٹھ	۶۰	چهل و یک	بیالیس	۴۲
شصت و یک	اکٹھ	۶۱	چهل و دو	تینتا لیس	۴۳
شصت و دو	باسٹھ	۶۲	چهل و سه	چوالیس	۴۴
شصت و سه	تریسٹھ	۶۳	چهل و چھار	پینتا لیس	۴۵
شصت و چھار	چونٹھ	۶۴	چهل و پنج	چھیالیس	۴۶
شصت و پنج	پینٹھ	۶۵	چهل و شش	سینتا لیس	۴۷
شصت و شش	چھیاٹھ	۶۶	چهل و هفت	اڑتا لیس	۴۸
شصت و هفت	سرٹھ	۶۷	چهل و هشت	انچاس	۴۹
شصت و هشت	اڑٹھ	۶۸	چهل و نہ	پچاس	۵۰
شصت و نہ	انہتر	۶۹	پنجاہ	اکاون	۵۱
هفتاد	ستر	۷۰	پنجاہ و یک	باون	۵۲
هفتاد و یک	اکہتر	۷۱	پنجاہ و دو	تریپن	۵۳
هفتاد و دو	بہتر	۷۲	پنجاہ و سه	چون	۵۴
هفتاد و سه	تہتر	۷۳	پنجاہ و چھار	چھپن	۵۵
هفتاد و چھار	چوہتر	۷۴	پنجاہ و پنج		

ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	اوقات	لغات اردو	شمارہ
یک و نیم	ڈیڑھ بجا	۱۹	ترجمہ فارسی	ساعت چند است؟	۱
دو و نیم	ڈھائی بجے	۲۰		ٹایم کیا ہے؟	
سہ و نیم	ساڑھے تین بجے	۲۱	یک بجہ	ایک بجا	۲
چھار و نیم	ساڑھے چار بجے	۲۲	دو بجہ	دو بجے	۳
پنج و نیم	ساڑھے پانچ بجے	۲۳	سہ بجہ	تین بجے	۴
شش و نیم	ساڑھے چھ بجے	۲۴	چھار بجہ	چار بجے	۵
ربع کم یک	پونا ایک بجا	۲۵	پنج بجہ	پانچ بجے	۶
ربع کم دو	پونا دو بجے	۲۶	شش بجہ	چھ بجے	۷
ربع کم سہ	پونا تین بجے	۲۷	ہفت بجہ	سات بجے	۸
ربع کم چھار	پونا چار بجے	۲۸	ہشت بجہ	آٹھ بجے	۹
ربع کم پنج	پونا پانچ بجے	۲۹	نہ بجہ	نوبجے	۱۰
یک و پنج دقیقہ	ایک نج کر پانچ منٹ	۳۰	دہ بجہ	دس بجے	۱۱
دو و دہ دقیقہ	دونج کر دس منٹ	۳۱	یازدہ بجہ	گیارہ بجے	۱۲
سہ و بیست دقیقہ	تمن نج کر بیس منٹ	۳۲	دوازدہ بجہ	بارہ بجے	۱۳
چھار و بیست و پنج دقیقہ	چار نج کر پچیس منٹ	۳۳	یک و ربع	سو ایک بجا	۱۴
پنج و سی و پنج دقیقہ	پانچ نج کر پینتیس منٹ	۳۴	دو و ربع	سوادوبجے	۱۵
شش و چھل دقیقہ	چھن نج کر چالیس منٹ	۳۵	سہ و ربع	سو اتنیں بجے	۱۶
ہفت و پنجاہ دقیقہ	سات نج کر پچاس منٹ	۳۶	چھار و ربع	سو اچار بجے	۱۷
ہشت و پنجاہ و پنج دقیقہ	آٹھ نج کر پچپن منٹ	۳۷	پنج و ربع	سو اپانچ بجے	۱۸

ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	اوقات	
یک ساعت	ایک گھنٹہ	۵۶		
وقت	وقت	۵۷		
روز	دن / روز	۵۸		
شب	رات	۵۹		
صبح	صبح	۶۰		
ظہر	دوپہر	۶۱		
عصر	عصر	۶۲		
شام	شام / مغرب	۶۳		
ختمن / عشاء	عشنا	۶۴		
شنبہ	ہفتہ	۶۵		
یکشنبہ	اوار	۶۶		
دوشنبہ	پیر	۶۷		
سہ شنبہ	منگل	۶۸		
چھارشنبہ	بدھ	۶۹		
پنج شنبہ	جمعرات	۷۰		
جمعہ	جمعہ	۷۱		
هر روز	ہر روز / ہر دن	۷۲		
ہر وقت	ہر وقت	۷۳		
گہ گاہی	کبھی کبھی	۷۴		
ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	اوقات	
امروز	آج	۴۸		
امشب	آج رات	۴۹		
شب گذشته	گزشتہ رات	۵۰		
نصف شب	آدھی رات	۵۱		
فردا	(آیندہ) کل	۵۲		
دیروز	(گذشتہ) کل	۵۳		
پس فردا	(آیندہ) پرسو	۵۴		
پریروز	(گذشتہ) پرسو	۵۵		
پستر فردا	(آیندہ) نرسو	۵۶		
پیش پریروز	(گذشتہ) نرسو	۵۷		
حالا	ابھی	۵۸		
ہمیشہ	ہمیشہ	۵۹		
ھفتہ	ہفتہ	۶۰		
ماہ	ماہیہ	۶۱		
سال	سال / برس	۶۲		
قرن	صدی	۶۳		
دقیقہ	منٹ	۶۴		
ثانیہ	سینکند	۶۵		

ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	صفات و احوال	لغات اردو	شمارہ
کہنہ / قدیمی	پرانا	۱۹	بزرگ	بڑا	۱
جدید	نیا	۲۰	کوچک	چھوٹا	۲
پر	بھرا ہوا	۲۱	دراز	لما	۳
حالی	فارغ	۲۲	کوتاه	ٹھنڈا	۴
کند	سترفتار	۲۳	زیاد	زیادہ	۵
تیز	تیزرفتار	۲۴	کم	تھوڑا	۶
بالا	اوپر	۲۵	سرد	ٹھنڈا	۷
پایین	نیچے	۲۶	گرم	گرم	۸
چست	چست	۲۷	آسان	آسان	۹
سست	ست	۲۸	مشکل	مشکل	۱۰
روبرو	سامنے	۲۹	تنگ	تنگ	۱۱
عقب	پیشے	۳۰	گشاد	کشادہ	۱۲
چاق	موٹا	۳۱	وزنی	وزنی	۱۳
لاغر	دبلہ / پتلا	۳۲	سبک	ہلاکا	۱۴
جسم سبک	ہلکے جسم والا	۳۳	پایین	نیچا	۱۵
جسم سنگین	بھاری جسم والا	۳۴	بلند	بلند	۱۶
طاقتور	طااقت ور	۳۵	تر	گیلا / تر	۱۷
ضعیف	کمزور	۳۶	خشک	خشک	۱۸
غلط	غلط	۳۷			

ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	صفات و احوال	لغات اردو	شمارہ
بستہ	بند	۵۶	ترجمہ فارسی	صحیح	۳۸
نارس / خام	پکا	۵۷	درخshan	چک دار	۳۹
پختہ	پکا ہوا	۵۸	تیز	تیز	۴۰
خستہ	ٹکا ہوا	۵۹	کند	کند	۴۱
عجیب	عجیب	۶۰	تاریکی	اندھیرا	۴۲
عمیق / چغر	گہرا	۶۱	روشنی	روشنی	۴۳
آمادہ	تیار	۶۲	کج	ٹیڑھا	۴۴
آویزان	لٹکا ہوا	۶۳	راست	سیدھا	۴۵
زحمتکش	محنتی	۶۴	نرم	ملائم	۴۶
نشستہ	بیٹھا ہوا	۶۵	درشت	کھر درا	۴۷
ایستادہ	کھڑا ہوا	۶۶	سوختہ	جلاء ہوا	۴۸
مریض	بیمار	۶۷	نمک دار	نمکین	۴۹
خوابیدہ	سویا ہوا	۶۸	تازہ	تازہ	۵۰
زنданی	قیدی	۶۹	شب ماندہ	باسی	۵۱
مصروف / مشغول	مشغول	۷۰	شکستہ	ٹوٹا ہوا	۵۲
کیف	گند / میلا	۷۱	شیرین	میٹھا	۵۳
پاک	صاف	۷۲	ترش	کھٹا	۵۴
منجمد	جماء ہوا	۷۳	باز	کھلا ہوا	۵۵
پریشان	پریشان	۷۴			

ورزش‌ها			صفات و احوال		
ترجمه فارسی	لغات اردو	شماره	ترجمه فارسی	لغات اردو	شماره
بازی	کھیل	۱	خوش	خوش	۷۵
چوگان	پولو/چوگان	۲	غمگین	غمگین	۷۶
فوتبال	فٹ بال	۳	پیس	کوڑھی/برص والا	۷۷
گلف	گواف	۴	لنگ	لنگرا	۷۸
شنا	تیراکی	۵	هموار	پلین	۷۹
کشتی رانی	کشتی رانی	۶	خارش زده	خارش زده	۸۰
تنیس	ٹینس	۷	گنجه/تاس	گنجا	۸۱
نیزه بازی	نیزه بازی	۸	خشتمگین	غصے والا	۸۲
هاکی	ہاکی	۹	کور	اندھا	۸۳
کرکت	کرکٹ	۱۰	کوزه پشت/کمر کج	کبڑا	۸۴
کبدی	کبدی	۱۱			۸۵
فوتبال دستی	رجی	۱۲			۸۶
بیلیارد	اسنوکر	۱۳			۸۷
میز تنیس	ٹیبل ٹینس	۱۴			۸۸
مسابقه باسکل/دوچرخه سواری	سائکل ریس	۱۵			۸۹
وزنه برداری	ویٹ لفٹنگ	۱۶			۹۰
اسپ سواری	گھڑ سواری	۱۷			۹۱
دوش/دو	دوڑ	۱۸			۹۲

ترجمه فارسی	لغات اردو	شماره	ورزش‌ها	لغات اردو	شماره
ریسمان کشی	رشاکشی	۳۷	ترجمه فارسی	طناب بازی	۱۹
مینچ	اوڈو کا چلاوا	۳۸	پرس ارتفاع	اوچی چھلانگ	۲۰
کشتی	کشتی	۳۹	پرس طول	لبی چھلانگ	۲۱
شمშیرزنی	تکوارزنی	۴۰	بسکتبال	باسکٹ بال	۲۲
گل/دروازہ	گول	۴۱	دو/دوش با مانع	بازدوز	۲۳
مسابقه	میچ	۴۲	اسکی	اسکینگ	۲۴
سوت	سیئی	۴۳	جودو	جوڑو	۲۵
گله	گولی	۴۴	تیم	ٹیم	۲۶
بدمیتون	بیڈ منٹن	۴۵	کاراته	کراتے	۲۷
گازک	چھولا	۴۶	واترپولو (فوتبال آبی)	واترپولو	۲۸
دستکش بکس	باکنگ دستانه	۴۷	بکس	باکنگ	۲۹
دروازه‌بان	گول کپر	۴۸	کشتی کج	ریسنگ	۳۰
کاپ	کپ	۴۹	بیس بال	بیس بال	۳۱
توپ فوتپال	فت بال	۵۰	بولنگ	بولنگ	۳۲
ساق بند	پید	۵۱	والیبال	والی بال	۳۳
پرتاپ توپ آهنی	شوٹ پٹ	۵۲	شطرنج	شطرنج	۳۴
بلوکه‌های بازی	بلوکس	۵۳	لخشک/سرسره	پھسلن	۳۵
چل مچلوں/فرفره	لٹو	۵۴	پر بازی	تاش	۳۶
چوب دستی	بیٹ	۵۵			

ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	وسایل خانہ	لغات اردو	شمارہ
سیم برق	بجلی تار	۳۷	ترجمہ فارسی	اتو	۱۹
فرش	دروی	۳۸		کولر/کلمن	۲۰
نالین چہ/توشک	گدا	۳۹		ایئر کولر	۲۱
لھاف	لھاف	۴۰	لفت/بالابر	لفٹ	۲۲
آبگرمکن / بایلر	گیزر	۴۱	چرخ خیاطی	سلائی مشین	۲۳
ولدر/جالامپی	ہولڈر	۴۲	ایر کنندیشن	اے سی	۲۴
خزہ/کشو	وراز	۴۳	بالشت	تکمیل	۲۵
مہمانخانہ	مہماں خانہ	۴۴	قالین	قالین	۲۶
ریسمان	رسی	۴۵	پردہ	پردہ	۲۷
فرش لوختی/ حصیر	چٹائی	۴۶	سقف	چھت	۲۸
ناودان	پرنالہ	۴۷	جائی نماز	جائے نماز	۲۹
اسکرینج/ آچار فرانسہ	رتخ	۴۸	کاخ/ قصر	محل	۳۰
ارہ	آری	۴۹	انبر پلاس/ انبر	پلاس	۳۱
ارہ آهن بری	لوہ آری	۵۰	رو تختی	بید شیٹ	۳۲
دوشاخ برق	پلک	۵۱	دھلیز/ هال	دھلیز	۳۳
پیچ کش	پیچ کس	۵۲	تبر	کھاڑی	۳۴
رینج پیپ/ آچار لولہ	پاپ رتخ	۵۳	کمپل/ پتو	کمل	۳۵
سہ ساکتہ/ سہ راہ	ایکس ٹینشن	۵۴	هواکش	ایگز است	۳۶
واتر پمپ/ موتور آب	موٹر پمپ	۵۵	جنراتور/ موتور برق	جرنیٹر	۳۷

ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	وسایل خانہ	لغات اردو	شمارہ
چراغ رکابی	لاٹین	۷۴	ترجمہ فارسی	باز	۵۶
ناز بالشت	گاؤںکیہ	۷۵	حافظ {بالائی دیوار}	لامپ مہتابی	۵۷
لامپ کم مصرف	اژجی سیور	۷۶	ساکت/فیوز	ساکٹ	۵۸
عصای زیر بغل	بیساکھی	۷۷	میخ	کیل	۵۹
ویلچر	وہیل چیر	۷۸	پنکہ	پنکھا	۶۰
سطل	بائی	۷۹	صابون	صابن	۶۱
اسفنج	فوم / گدا	۸۰	کیف سفر	سفری بیگ	۶۲
پشه خانہ	محمردانی	۸۱	چهل چراغ	فانوس	۶۳
باد زنہ	ہاتھ پنکھا	۸۲	پنکہ زمینی	فرشی پنکھا	۶۴
بیلر/بشكہ	ڈرم	۸۳	شمع	موم بتنی	۶۵
جاکلیدی	چالی رنگ	۸۴	ساعت زنگی	الارم گھڑی	۶۶
سرمه	سرمہ	۸۵	ساعت دیواری	کلاک	۶۸
تَّی	واپر	۸۶	دستہ گل	گلدستہ	۶۹
گیرہ لباس	کپروں کا کلپ	۸۷	پنکہ دیواری	دیواری پنکھا	۷۰
پیپ آب/لولة آب	پانی پاپ	۸۸	گھوارہ	گھوارہ	۷۱
آفتابہ	لوٹا	۸۹	پایدان	پائیدان	۷۲
تانکر	ٹینکی	۹۰	دستگاہ تصفیہ آب	فلتر	۷۳
سرمه دان	سرمه دانی	۹۱			
		۹۲			

وسایل خانه			رنگ‌ها		
ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ
زنگ	گھنٹی	۱	گلابی / صورتی	گلابی	۱
اطاق	کمرہ	۲	زرد	پیلا	۲
خانہ	گھر	۳	سفید	سفید	۳
دروازہ	دروازہ	۴	نارنجی	نارنجی	۴
کلکین / پنجرہ	کھڑکی	۵	رنگ طلایی	گولڈن رنگ / سبھری	۵
دستہ دروازہ	دستہ	۶	رنگ قهوہ‌ای	براون رنگ / بھورا	۶
نرده / کتارہ	گرل	۷	بنفش	بنفسی	۷
زینہ/پله	سیرہ ہمی	۸	سیاہ	سیاہ	۸
قیچیک / قفلک	کٹڑی	۹	رنگ آبی	سیلارنگ	۹
کلید	چابی	۱۰	سبز	سبز	۱۰
قفل	تالا	۱۱	سرخ	سرخ	۱۱
چوکات/چارچوب	دروازے کی چوک	۱۲	نقرہ‌ای	چاندنی	۱۲
جارو برقی	بجلی جارو	۱۳	رنگارنگ	رنگ برنگ	۱۳
فریزر	فریزر	۱۴	آسمانی	آسمانی	۱۴
مبل	صوفہ	۱۵	گندمی	گندمی	۱۵
ماشین لباسشویی	واشنگ مشین	۱۶	حاکستری	رمادی	۱۶
یخچال	فریਜ	۱۷	رنگ تیرہ	گھر ارنگ	۱۷
جارو	جھاڑو	۱۸	رنگ روشن / رنگ باز	پکارنگ	۱۸

ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	وسایل آشپزخانہ	لغات اردو	شمارہ
کارد / چاقو	چھری	۱۹	ترجمہ فارسی	باور پیچی خانہ	۱
کتری چای خوری	چائے کیتیلی	۲۰	آشپزخانہ	ماچس	۲
هاون	ہاون (نگری)	۲۱	گوگرد / کبریت	ماچس کی تیلی	۳
غربال / الک	آٹا چھلنی	۲۲	سیخ گوگرد / سیخ کبریت	ہانڈی	۴
تنور	تنور	۲۳	دیگ بزرگ	بڑا چیچ	۵
چای صاف کن	چھلنی	۲۴	فاشق کلان / ملاقه	چائے کا چیچ	۶
انبر (برای گرفتن نان)	چمٹا	۲۵	فاشق چای خوری	کانٹا	۷
مخلوط کن دستی	ہاتھ والی مدھانی	۲۶	چنگال	چیچ	۸
لیوان شیشه ای	شمیش کا گلاس	۲۷	فاشق	چولہا	۹
سر باز کن نوشابہ	بوتل چابی	۲۸	اجاق گاز	جوسر	۱۰
پنوس / سینینی	ٹرے	۲۹	ماشین مخلوط کن	کپ	۱۱
پیالہ بزرگ	بڑا پیالہ	۳۰	پیالہ	برتن	۱۲
دیگ بخار	پریشر کر	۳۱	ظرف	روٹی والی بچھانی	۱۳
بشقاب	پلیٹ	۳۲	سبد نان	قیمه مشین	۱۴
سیخ	بنخ	۳۳	چرخ گوشت	گیس سلینڈر	۱۵
نمکدان	نمک دانی	۳۴	کپسول گاز	اسکواش بار	۱۶
غلطک	بیلن	۳۵	ظرف شو	تھرماس	۱۷
		۳۶	ترموز / فلاکس	فرائی پین	۱۸
		۳۷	ماہیتابہ		

وسایل وضو خانه

ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ
شیر آب	ٹونٹی	۱۹	شانہ	کنگھی	۱
تشناب/دستشویی	باتھ روم	۲۰	قیچی	قینچی	۲
برس مو	بالوں والا برش	۲۱	برس	برش	۳
تیغ	بلید	۲۲	خمیر دندان	ٹو تھپیٹ	۴
کت بند	کھونٹی	۲۳	برس دندان	دانٹوں والا برش	۵
کاشی / سرامیک	ٹاکل	۲۴	میز	ٹیبل	۶
چاہ فاضلاں	گڑ	۲۵	ناخن گیر	ناخن تراش	۷
روغن سر	تیل	۲۶	ژلیت	ریزر	۸
چنگک / گیر لباس	یینگر	۲۷	صابون دانی	صابن دانی	۹
شلينگ	پلاسٹک پائپ	۲۸	محل شستن دستہا	بیسن	۱۰
چاہ پمپہ / تبلہ آب	نکا	۲۹	شامپو	شیپو	۱۱
		۳۰	پودر/برف	سرف	۱۲
		۳۱	ہولہ	تولیہ	۱۳
		۳۲	دستمال کاغذی	ٹوشپیپر	۱۴
		۳۳	واتکس	بلچ	۱۵
		۳۴	پیپ/لولہ ماشین لباسشویی	واشنگ مشین پائپ	۱۶
		۳۵	ماشین سر تراشی	مونڈھنے والی مشین	۱۷
		۳۶	شاور/دوش	شاور	۱۸
		۳۷			

ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	وسایل مکتب	لغات اردو	شمارہ
سوراخ کن	ہول پیچ	۱۹	ترجمہ فارسی	لگ	۱
ماشین حساب	سیکلولیٹر	۲۰	کیف	بیگ / بستہ	۲
استبلر / منگنه کوب	اسپلر	۲۱	وایت بورڈ / تختہ سفید	وانٹ بورڈ	۳
دوات	سیاہی	۲۲	پایہ تختہ	اسٹیڈ بورڈ	۴
تباشیر	چاک	۲۳	صنف / کلاس	درسگاہ	۵
جاقلمی	قلم دان	۲۴	پنسل تراش / مداد تراش	پنسل تراش	۶
سنjacاق کاغذ	پپر کلپ	۲۵	پنسل / مداد	پنسل	۷
پونس	پپر پن	۲۶	خودنویس	پین	۸
فرهنگ / دکشنری	ڈکشنری	۲۷	قلم خودکار	بال پین	۹
خط کش	اسکیل	۲۸	تختہ پاک	جھاڑن	۱۰
محلہ	میگزین	۲۹	کتاب	کتاب	۱۱
دوسیہ / پوشہ	فائل	۳۰	پنسل پاک / پاک کن	ربڑ	۱۲
قصہ	کہانی	۳۱	قلم خطاطی	لکھائی قلم	۱۳
فنر / اسپرنگ	اپرنگ	۳۲	نوار چسب	سلوشن میپ	۱۴
سفیدکن	وانٹو	۳۳	چسب کاغذ	گوند	۱۵
سوزن استبلر / منگنه	اسپلر پن	۳۴	استیچ / تریبون	ڈائس / اسٹیچ	۱۶
کاپی / کاربن	کاربن پیپر	۳۵	قلم رنگہ	رنگ والے قلم	۱۷
دفتر یادداشت	ڈائری	۳۶	کتابچہ / دفتر	کاپی	۱۸
نامہ	خط	۳۷	زیر ورقی	گتہ	

وسایل حمل و نقل

ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ
کجاوہ	ہودن	۱۹	تاکسی	ٹیکسی	۱
واگن قطار	ریل ڈبہ	۲۰	ملی بس / اتوبوس	بس	۲
رکشہ / سہ چرخ	رکشہ	۲۱	سیکل / موتور	موٹر سائیکل	۳
طیارہ / ہواپیما بی سرنشین	ڈرون طیارہ	۲۲	کراچی اسپ / کالسکہ	گھوڑا گاڑی / تانگہ	۴
فراشور / چتر	پیراشوت	۲۳	باسکل / دو چرخہ	سائیکل	۵
قایق تفریحی	بجرا	۲۴	قطار	ریل گاری	۶
تانکر تیل / نفت	آلن ٹینکر	۲۵	موتر / ماشین مسابقه	ریس کار	۷
تانکر آب	واٹر ٹینکر	۲۶	موتر / ماشین سواری	گاڑی	۸
بالابر / لفتر	لفٹر	۲۷	آمبولانس	ایکولنس	۹
شاول	کھونے والی مشین	۲۸	زنبر / فرغون	ہاتھ ریڑی	۱۰
بلدوزر	بلڈوزر	۲۹	کراچی گاؤ / گاری	بیل گاری	۱۱
ماہوارہ فضائی	خلائی شل	۳۰	موتر / ماشین پولیس	پولیس کار	۱۲
قایق پارویی	ڈونگی	۳۱	تیلر	ٹریلر	۱۳
طیارہ / ہواپیما	ہوائی جہاز	۳۲	بالون	غبارہ	۱۴
لاری / کامیون	ٹرک	۳۳	موشک	میرزاکل	۱۵
کمپرسی	ڈپر	۳۴	تراکتور	ٹریکٹر	۱۶
کشتی نفتی	پٹرول اسٹیئر	۳۵	خط آهن	ریل پڑی	۱۷
اطفائیہ / آتش نشان	فائر بریگید	۳۶	جرثقیل	کرین	۱۸
ہلیکپٹر	ہیلی کاپٹر	۳۷			

ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	اعضائی انسان	لغات اردو	شمارہ
گلو	زگٹ / گلا	۱۹	ترجمہ فارسی	چہرا	۱
پشت	پیٹھ	۲۰	چہرہ	چہرا	۱
ابرو	ابرو	۲۱	معز	دامغ	۲
شانہ	کندھا	۲۲	سر	سر	۳
سبیل/بروت	مونچھ	۲۳	گردن	گردن	۴
لب	ہونٹ	۲۴	چشم	آنکھ	۵
شکمبه	او جھری	۲۵	پشت گردن	گدڑی	۶
روده	انتریاں	۲۶	جمجمہ	کھوپڑی	۷
شش	پھیپھڑا	۲۷	چانہ / زنخ	ٹھوڑی	۸
بیرہ / لٹھ	مسوڑا	۲۸	گونہ / لمبوس	گال	۹
معدہ	معدہ	۲۹	گیسو	چٹیا	۱۰
کمر	کمر	۳۰	دندان	دانٹ	۱۱
آرنج	کہنی	۳۱	مو	بال	۱۲
بغل	بغل	۳۲	فك	جڑا	۱۳
سوراخ بینی	ناک کا سوراخ	۳۳	مردمک چشم	آنکھ کا ڈھیلا	۱۴
ریش	واڑھی	۳۴	گوش	کان	۱۵
زبان	زبان	۳۵	اشک	آنسو	۱۶
ستون فقرات	ریڑھ کی ہڈی	۳۶	پلک	پلکیں	۱۷
پشت دست	ہاتھ کی پشت	۳۷	بینی / پوز	ناک	۱۸

ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	اعضائی انسان	لغات اردو	شمارہ
بجلک/قوزک	ٹنجز	۵۶	ترجمہ فارسی	مشت	مشت
زانو	گھٹنا	۵۷		مکا	۳۸
کف پا	پاؤں کا تلوا	۵۸		میٹھی	۳۹
انگشتان پا	پاؤں کی انگلیاں	۵۹	بند دست	پہنچے / کلائی	۴۰
ناف	ناف	۶۰	کف دست	ہتھیلی	۴۱
زخم	زخم	۶۱	دست	ہاتھ	۴۲
مفصل	جوڑ	۶۲	پا	پاؤں / پیر / ٹانگ	۴۳
سر انگشت	پورہ	۶۳	پاشنہ پا	ایڑھی	۴۴
ناخن	ناخن	۶۴	قبرغہ / دندہ / غزہ	پسلیاں	۴۵
انگشت	انگلی	۶۵	گردہ	گردے	۴۶
انگشت شہادت	انگوٹھا	۶۶	جگر	جگر	۴۷
انگشت شہادت	شہادت کی انگلی	۶۷	دل	دل	۴۸
انگشت شہادت	در میانی انگلی	۶۸	بازو / ساعد	بازو	۴۹
انگشت کوچک	چھنگلی انگلی	۶۹	بازو / ماہیچہ	پٹھے	۵۰
انگشت پہلوی انگشت کوچک	انگلی کے ساتھ والی انگلی	۷۰	جلد	جلد	۵۱
			دهان	منہ	۵۲
پیشانی	پیشانی / ماتھا	۷۱	سینہ	سینہ	۵۳
ساق پا	پنڈلی	۷۲	استخوان	ہڈی	۵۴
شکم	پیٹ	۷۳	خون	خون	۵۵

ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	حشرات	لغات اردو	شمارہ
شبیوش	جوں	۱۹	ترجمہ فارسی	مار	۱
پروانہ	تتلی	۲۰		سانپ	
کلیز/زنبرور	بھڑ	۲۱	چلپاسہ	چھپکلی	۲
گژدم	بچھو	۲۲	تمساح	مگر مچھ	۳
کنه	کھٹمل	۲۳	سوسمار / بزمجه	گوہ	۴
عنکبوت	مکڑی	۲۴	مار افعی	کالاسانپ	۵
صفد	سیپ	۲۵	اڑدھا	اڑدھا	۶
کرم ابریشم	ریشم کا کیردا	۲۶	مگل / قورباغہ	مینڈک	۷
ستارۂ دریائی	سندری ستارہ	۲۷	سنگ پشت	کچھوا	۸
کنجد/جعلو	بادامی بھنورا	۲۸	سوسک/چورچورک	لال بیگ	۹
کفش دوز	بھنورا	۲۹	مگس	کمھی	۱۰
پشه	محمر	۳۰	سنjacک	پنگا	۱۱
خورہ	دیمک	۳۱	کیک	پسو	۱۲
زالو	جونک	۳۲	کخ پیله/کرم	لاروا	۱۳
آفتاب پرست	گرگٹ	۳۳	مورچہ	چیونٹی	۱۴
ملخ	ٹڈی	۳۴	پروانہ	پروانہ	۱۵
هزار پایہ	کن کھجورا	۳۵	کشفك	سیکاڑا	۱۶
		۳۶	کنگاش	سیکردا	۱۷
		۳۷	زنبرور عسل	شہد کی کمھی	۱۸

ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	حیوانات و حشی	لغات اردو	شمارہ
خارپشتک/جو جہے تیغی	جنگلی چوہا	۱۹	ترجمہ فارسی	سگ نگہبان	۱
شغال	گیدڑ	۲۰		سگ شکاری	۲
خر و حشی	زیبرا	۲۱		بز کوهی	۳
دایناسور	ڈائیناسور	۲۲		روباء	۴
راسو	نیولا	۲۳		شترمرغ	۵
کانگرو	کینگرو	۲۴		خرس	۶
سیکر	سہ	۲۵		گرگ	۷
کوهان	کوہان	۲۶		شیر	۸
چراگاہ	چراگاہ	۲۷		فیل	۹
گوریلا/شادی	گوریلا	۲۸		میمون	۱۰
لجام	نکلیل / لگام	۲۹		زرافہ	۱۱
مایہ حیوان شیردہ	تھن	۳۰		آهو	۱۲
عاج / دندان فیل	ہاتھی کے دانت	۳۱		گوزن	۱۳
موس کور	چھپھوندر	۳۲		پلنگ	۱۴
دم	دم	۳۳		گربہ و حشی	۱۵
سم	کھر	۳۴		کفتار	۱۶
جو جہے گربہ	بلی کا بچہ	۳۵		کرگدن هندی	۱۷
برہ	بھیڑ کا بچہ	۳۶		سنجب	۱۸
		۳۷			

پرندگان

ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ
جغد / بوم	الو	۱۹	طاوس	مور	۱
فاختہ	فاختہ	۲۰	کفترا / کبوتر	کبوتر	۲
مرغ نوک دراز	چھا	۲۱	گنجشک / چغک	چڑیا	۳
مرغ سقا	ہنس	۲۲	طوطی	طوطا	۴
درنا	سارس	۲۳	باز	باز	۵
لک لک	راجہ لقلاق	۲۴	خروس	مرغا	۶
موش گیر	چیل	۲۵	مرغ	مرغی	۷
جو جہ	چوزہ	۲۶	بلبل	بلبل	۸
پر	پر	۲۷	کلاح	کوا	۹
قفس	پنجرہ	۲۸	خفاش	چگاڈڑ	۱۰
مرغ ماهی خوار	بگلا	۲۹	هدہد	ہدہد	۱۱
نوک	چونچ	۳۰	مرغ شاخک	چکور	۱۲
پنگوں	پنگوئن	۳۱	آشیانہ	گھونسلہ	۱۳
		۳۲	بلدر چین	بٹیر	۱۴
		۳۳	عقاب	شاپن	۱۵
		۳۴	مرغابی	مرغابی	۱۶
		۳۵	مرغ نوروزی	نورس	۱۷
		۳۶	لاشخور / کرکس	گلدھ	۱۸
		۳۷			

حیوانات اہلی			چیزهای طبیعی		
ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ
اسپ	گھوڑا / گھوڑی	۱	ستارہ	ستارہ	۱۹
خرگوش	خرگوش	۲	غبار	غبار	۲۰
بز	بکرا / بکری	۳	ابر	بادل	۲۱
گوسالہ	بچھڑا / بچھڑی	۴	مه	وھندر	۲۲
قوج	دنہبہ	۵	سیارہ	سیارے	۲۳
میش	بھیڑ	۶	باد	ہوا	۲۴
شتر نر	اونٹ	۷	شبینم	شبینم	۲۵
شتر مادہ	اوٹنی	۸	ماہ	چاند	۲۶
خر	کدھا	۹	زمین	زمین	۲۷
تولہ سگ	پلا	۱۰	هوای صاف و آفتابی	دھوپ	۲۸
گربہ	بلی	۱۱	برقک / پایہ	آسمانی بجلی	۲۹
گاؤمیش مادہ	بھینس	۱۲			۳۰
گاؤمیش نر	سانڈ	۱۳			۳۱
گاو مادہ	گائے	۱۴			۳۲
گاو نر	بیل	۱۵			۳۳
گله حیوانات	ریوڑ	۱۶			۳۴
قاطر	خچر	۱۷			۳۵
سگ	کتا	۱۸			۳۶

ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	خوردنی‌ها	لغات اردو	شمارہ
پان	پان	۵۶	ترجمہ فارسی	دہی	۳۸
برنج شیرین	میٹھے چاول	۵۷	ماست	سیگار	۳۹
آب معدنی	فلتر شدہ پانی	۵۸	قهوہ	سگریٹ	۴۰
تبaco	تمباکو	۵۹	یخ	برف	۴۱
پیتزا	پیزا	۶۰	میوه‌های خشک	خشک میوه جات	۴۲
نبات	مصری	۶۱	مینو	ٹافیاں	۴۳
عدس	مسور / دال	۶۲	روغن	گھی	۴۴
کنجد	تل	۶۳	گور	گڑ	۴۵
ارزن	جوار	۶۴	زوالہ	پیرا	۴۶
نی‌شکر	گنا	۶۵	آرد	آٹا	۴۷
جو	جو	۶۶	خامہ / قیماق	ملائی	۴۸
گندم	گندم	۶۷	همبرگر	برگر	۴۹
نخود	چنا	۶۸	ترشی	اچار	۵۰
نخود لپه	دال	۶۹	جلیبی / زلوبیا	جلیبی	۵۱
دال نخود	دال چنا	۷۰	چای خشک	پتی	۵۲
لوبیا سرخ	لال لوبیا	۷۱	سمبوسه	سموسہ	۵۳
لوبیا سفید	سفید لوبیا	۷۲	شیرینی	مشھائی	۵۴
		۷۳	جواری / زرت	مکنی	۵۵
		۷۴			

توجہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	خوردنی‌ها	لغات اردو	شمارہ
ساندويچ	سینڈوچ	۱۹	توجہ فارسی	روٹی	۱
سوس	کیچپ	۲۰	نان	انڈا	۲
آسکریم / بستنی	آئس کریم	۲۱	تخم مرغ	ابلا ہوا انڈا	۳
بستنی کیم	قلفی	۲۲	تخم مرغ آب پز	تلا ہوا انڈا	۴
شیرچای	چائے / دودھ پتی	۲۳	خاکینہ / نیمرو	چپاتی	۵
چای سبز	سبز چائے	۲۴	نان لواش	شہد	۶
چای سیاہ	سلیمانی چائے	۲۵	عسل	بکٹ	۷
چاکلیٹ	چاکلیٹ	۲۶	بسکویت	مرغی کا گوشت	۸
سالاد	سلاڈ	۲۷	گوشت مرغ	کبرے کا گوشت	۹
ماہی	محکلی	۲۸	گوشت بزر	چاول	۱۰
نوشاپہ	کولڈ ڈرنک	۲۹	برنج	ڈبل روٹی	۱۱
شکر	چینی	۳۰	نان ماشینی / نان فانتری	مسکہ	۱۲
کیک	کیک	۳۱	چیپس	چپس	۱۳
جوس / آب میوه	جوس	۳۲	شیر	دودھ	۱۴
آدامس / سفچ	چیپونگم	۳۳	چلبک	پراٹھا	۱۵
سرکہ	سرکہ	۳۴	سوپ	سوپ	۱۶
گوشت کباب شدہ	بھنا ہوا گوشت	۳۵	گوشت و برنج تند	بریانی	۱۷
فرنی / شیر برنج	کھیر	۳۶	قرمه / سوربا	سالن	۱۸
آملیت	آملیٹ	۳۷			

اقوام و خویشاوندان

ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ
عروس	بہو	۳۷	شوہر عمه	پھوپا	۱۹
داماد	داماڈ	۳۸	عمہ	پھوپی	۲۰
شوہرخواہر	بہنوئی	۳۹	خالہ	خالہ	۲۱
پسر عمه	پھوپی زاد بھائی	۴۰	شوہر خالہ	خالہ کا شوہر	۲۲
دختر عمه	پھوپی زاد بہن	۴۱	برادرزادہ(پسر)	بھتیجا	۲۳
برادر کوچک شوہر	دیور	۴۲	برادرزادہ(دختر)	بھتیجی	۲۴
برادر بزرگ شوہر	جیٹھ	۴۳	خواہر زادہ(پسر)	بھانجما	۲۵
زن برادر	بھاجی	۴۴	خواہر زادہ(دختر)	بھانجی	۲۶
باجہ	ہم زلف	۴۵	پسر کا کا (عمو)	چچا زاد بھائی	۲۷
انباع	سوکن	۴۶	دختر کا کا (عمو)	چچا کی بیٹی	۲۸
			پسر ماما(دایی)	ماموں زاد بھائی	۲۹
			دختر ماما(دایی)	ماموں کی بیٹی	۳۰
			پسر خالہ	خالہ زاد بھائی	۳۱
			دختر خالہ	خالہ کی بیٹی	۳۲
			خشو (مادر شوہر)	ساس	۳۳
			خسر	سر	۳۴
			خسر زادہ	سالا	۳۵
			خوش لوچہ (خواہر زن)	سالی	۳۶

اقوام و خویشاوندان

وسایل موبایل

ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ
پدر	والد	۱	دکمه	بٹن	۱
مادر	والدہ	۲	صفحہ موبایل	اسکرین	۲
پسر	بیٹا	۳	باتری	بیٹری	۳
دختر	بیٹی	۴	سیم کارت	سم کارڈ	۴
برادر	بھائی	۵	میموری رم	میموری کارڈ	۵
خواهر	بہن	۶	پوش موبایل	کیسٹگ	۶
پدر بزرگ (پدری)	دادا	۷	صوتی	اؤڈیو	۷
مادر بزرگ (پدری)	دادی	۸	سیم رابط	ٹیٹا کیبل	۸
پدر بزرگ (مادری)	نانا	۹	انتقال بیلانس / شارژ با موبایل	ایزی لوڈ	۹
مادر بزرگ (مادری)	نانی	۱۰	بیلانس / کارت شارژ	بیلنس کارڈ	۱۰
نواسہ پسر (پسری)	پوتا	۱۱	گوشی	ہیڈفون	۱۱
نواسہ دختر (پسری)	پوتی	۱۲	شارژر	چارجر	۱۲
نواسہ پسر (دختری)	نواسا	۱۳	کور / پوش	کور	۱۳
نواسہ دختر (دختری)	نواسی	۱۴	زنگ	کال	۱۴
کاکا (عمو)	چچا	۱۵	پیام	تیک	۱۵
زن کاکا (زن عمو)	چچی	۱۶	آنتن دھی	سگنل	۱۶
ماما (دایی)	ماموں	۱۷	قفل موبایل	موباکل کالاک	۱۷
زن ماما (زن دایی)	ممانی	۱۸	مسکال / تک زنگ	مسکال	۱۸

گلها			اماکن و ساختمان‌ها		
ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ
گل	بھول	۱	فوارہ	فوارہ	۵۶
گل انار	گل انار	۲	زندان	تید خانہ / جیل	۵۷
نیلوفر	نیلوفر	۳	وارد / سالن	وارڈ	۵۸
گل گلاب	گلاب بھول	۴	ایستگاہ قطار	ریلوے اسٹیشن	۵۹
بنفسہ	بنفسہ	۵	کتابخانہ	لائبریری	۶۰
گل شب بو / گل مریم	رات کی رانی	۶	گودال / چقری	گڑھا	۶۱
گل خطمی	گل خطمی	۷	سیرک	سرکس	۶۲
گل بھار	گل بھار	۸	مہمانخانہ	مہمانخانہ	۶۳
آفتاب گردان	سورج کمھی	۹	چوک / فلکہ	چورنگی	۶۴
یاسمین	یاسمین	۱۰	چاہ	کنوں	۶۵
گل بابونہ	گل بابونہ	۱۱	دواخانہ / داروخانہ	میڈیکل اسٹور	۶۶
نرگس	نرگس	۱۲	بند / سد	ڈیم	۶۷
گل لالہ	گل لالہ	۱۳	سایبان	سایبان	۶۸
اقحوان / گل زرد	گیندا	۱۴	محکمہ / دادگاہ	عدالت	۶۹
گل میخک	کرنیشن	۱۵	صحن	صحن	۷۰
گل شقايق	شقائق نعمان	۱۶	اتاق معاينہ	چیلگ کمرہ	۷۱
بخار	بخار	۱۷	نمایشگاہ کتاب	بک اسٹال	۷۲
گل سوسن	سوسن	۱۸	گاوش	بازار	۷۳

اماكن و ساختمان ها			مساله جات		
ترجمه فارسي	لغات اردو	شماره	ترجمه فارسي	لغات اردو	شماره
بندرگاه	بندرگاہ	۱	مساله/ادويه	مساله	۱
قبرستان	قبرستان	۲	قرنفل	لوگ	۲
مدرسہ	مدرسہ	۳	هل	الاچھی	۳
مکتب/مدرسه دولتی	اسکول	۴	زنجبیل	سونٹھ	۴
ترمینال	بس اڈہ/ترمینل	۵	زردچوبہ	پلڈی	۵
شهر	شہر	۶	دارو گرم	سیاہ مرچ	۶
گدام/انبار	گودام	۷	بادیان	سوونف	۷
سرک/جادہ	سرک	۸	زیرہ	زیرہ	۸
نمایشگاه	شوروم	۹	زعفران	زعفران	۹
مندی سبزیجات/میدان بار	سبزی منڈی	۱۰	شنبلیله	میتھی	۱۰
بحر/اقیانوس	سمندر	۱۱			۱۱
فابریکہ/کارخانہ	فیکٹری	۱۲			۱۲
پل	پل	۱۳			۱۳
باغ و حش	چڑیا گھر	۱۴			۱۴
کشت	کھیت	۱۵			۱۵
چشمہ/عینک	چشمہ	۱۶			۱۶
ساحل دریا	ساحل سمندر	۱۷			۱۷
باغ	باغ	۱۸			۱۸

ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	اماکن و ساختمان‌ها	لغات اردو	شمارہ
قریہ/روستا	بسی	۳۷	ترجمہ فارسی	پولٹری فارم	۱۹
چوک/فلکہ	چوک	۳۸	مرغ داری	پھل مندی	۲۰
ادارہ	دفتر	۳۹	مندی میوه جات/میدان بار	تالار عروسی	۲۱
مسجد	مسجد	۴۰	غار	غار	۲۲
موزیم/موزہ	عجائب گھر	۴۱	گدام/انبار حبوبات	پاسکو گودام	۲۳
گبند	گنبد	۴۲	خیمه	خیمه	۲۴
شفاخانہ/بیمارستان	ہسپتال	۴۳	استدیوم	اسٹڈیم	۲۵
صحراء	صحرا	۴۴	بانک	بنک	۲۶
برج	برج	۴۵	میدان هواپی/فروندگاہ	ہوائی اڈہ	۲۷
دانشگاہ	یونیورسٹی	۴۶	نهال فروشی	نسری	۲۸
کلب ورزش	ورزش کلب	۴۷	گلفروشی	بھول نسری	۲۹
ادارہ پست	ڈاک خانہ	۴۸	استیج/تریبون	اسٹیج	۳۰
انسٹیتوں	انسٹیوٹ	۴۹	پارلمان	پارلیمنٹ	۳۱
آبشار	آبشار	۵۰	نقشه	نقشه	۳۲
ایستگاہ ملی بس/اتوبوس	بس اسٹاپ	۵۱	کوچہ	گلی	۳۳
مارکت ماہی فروشہا	محچلی مارکیٹ	۵۲	پستہ	تحانہ	۳۴
タンک تیل/پمپ بنزین	پڑول پپ	۵۳	گاراج	گیراج	۳۵
صندوق پست	لیٹر بکس	۵۴	کاخ	محل	۳۶
دریاچہ	جھیل	۵۵			

ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	شغل‌ها		
ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ
اطفائیہ/آتش نشان	فائر بریگیدر	۱۹	سلمانی / آرایشگر	نائی	۱
خزانہ دار	خزانچی	۲۰	مدیر	مہتمم	۲
دلکھ	جوکر	۲۱	هیزم شکن	کڑھارا	۳
غواص	غوطہ خور	۲۲	سبزی فروش	بزری فروش	۴
مستری/مکانیک	مکینٹ	۲۳	کوزہ گر / سفالگر	کھار	۵
نجار	بڑھنی	۲۴	نانوا	نان بائی	۶
قابلہ/دایہ	دائی	۲۵	جراح	سرجن	۷
نرس/پرستار	نرس	۲۶	کفاش	موچی	۸
خدمہ	ہوٹل	۲۷	خدمتکار/گارسون	ویٹر	۹
انجینئر/مهندس	انجینئر	۲۸	قصاب	قصائی	۱۰
لباسشو	وھوبنی	۲۹	بناء	مسڑی	۱۱
بازیکن	کھلاڑی	۳۰	گویندہ رادیو	براڈ کاٹر	۱۲
کشتہمند/کشاورز	کسان	۳۱	نعت خوان	نعت خوال	۱۳
ساینس دان/دانشمند	سائنس دان	۳۲	استاد	استاذ	۱۴
وکیل	وکیل	۳۳	خطاط	خطاط	۱۵
راہزن	ڈاکو	۳۴	شیرینی فروش	حلوائی	۱۶
پیلوٹ/خلبان	پائلٹ	۳۵	آهنگر	لوہار	۱۷
دکتر	ڈاکٹر	۳۶			۱۸
ساعت ساز	گھڑی ساز	۳۷			

چیزهای طبیعی			پوشک و زیورآلات		
شماره	لغات اردو	ترجمہ فارسی	شماره	لغات اردو	ترجمہ فارسی
۱	طلوع آفتاب	طلوع آفتاب	۳۸	لب شیرین	لب اسٹک
۲	غروب آفتاب	غروب آفتاب	۳۹	مهرہ	دانا / منکا
۳	باران	بارش	۴۰	زیپ	زپ
۴	زلزلہ	زلزلہ	۴۱	عطر	عطر / خوشبو
۵	آب و هوا / فصل	موسم	۴۲	لوازم آرایش	میک اپ کاسامان
۶	آفتاب	سورج	۴۳	گوشوارہ	بالی
۷	سایه	سایه	۴۴	گردنبند	ہار / مala
۸	سیل	سیلاب	۴۵	زنجیر	زنجیر / لاکٹ
۹	دود	دھوائیں	۴۶	حنا	مہندی
۱۰	طوفان	آنندھی	۴۷	دکمه	بٹن
۱۱	گل و لای	کچڑ	۴۸	چوری / النگو	چوڑیاں
۱۲	شعاع خورشید	شعاعیں	۴۹	زمرد	زمرد
۱۳	گرمی / تابستان	گرمی	۵۰	پیش بند	پیش بند
۱۴	سردی / زمستان	سردی	۵۱	الماس	ہیرا
۱۵	بهار	بہار	۵۲	تعویذ	تعویذ
۱۶	خرزان	خرزان	۵۳	پازیب	پازیب
۱۷	برف باری	برف باری	۵۴	مروارید	موتی
۱۸	رنگین کمان	قوس و قزح	۵۵	یاقوت	یاقوت

ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	وسایل کامپیوٹر	لغات اردو	شمارہ
فاکس	فیکس	۱۹	ترجمہ فارسی	لبتاب	۱
سی دی	سی ڈی	۲۰	ال سی دی	لیپ ٹاپ	۲
کامرہ/دوربین فیلمبرداری	ویڈیو کمیرہ	۲۱	کامپیوٹر	کمپیوٹر	۳
تلویزیون	ٹیلی ویژن	۲۲	کیبورد/صفحہ کلید	کی بورڈ	۴
ویب سایت	ویب سائیٹ	۲۳	فلپسی	فلپی ڈسک	۵
دی وی دی	ڈی وی ڈی	۲۴	موس	ماوس	۶
ربات	روبوٹ	۲۵	اسکنر/دستگاه اسکن	اسکنر	۷
چراغ برق/چراغ قوه	اسکنر	۲۶	مانیتور	مونیٹر	۸
فلش	یو-اس-پی	۲۷	اسپیکر/بلندگوی کامپیوٹر	کمپیوٹر اسپیکر	۹
کنترل/ریموت کنٹرول	ریموت کنٹرول	۲۸	پرینٹر/دستگاه پرینٹ	پرنسٹر	۱۰
مایک/میکروفون	مائیک	۲۹	مادربرود	مدرس بورڈ	۱۱
تیپ/ضبط صوت	ٹیپ ریکارڈ	۳۰	کیس	سی پی یو	۱۲
گوشی تلفن	ریسیور	۳۱	ویندوز	ویندوز	۱۳
رادیو	ریڈیو	۳۲	لینز	لینز	۱۴
تلیفون	فون	۳۳	آنٹی ویروس	ہنٹی وائرس	۱۵
پروجکٹور	پروجیکٹر	۳۴	ہارد/حافظہ کامپیوٹر	ہارڈ ڈسک	۱۶
ام پی تری	ایم-پی-تھری	۳۵	سی دی رم	سی ڈی روم	۱۷
کاست	کیسٹ	۳۶	کامرہ/دوربین	کمیرہ	۱۸
		۳۷			

ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	وسایل	لغات اردو	شمارہ
پارو	چپو	۱۹	ترجمہ فارسی	ڈرل مشین	۱
زره بین	خرد بین	۲۰	برمه / متہ		
سشوار	بال خشک کرنے کی مشین	۲۱	پچکاری / آمپول	انجشن	۲
دستگاہ پف کن	ہوا والی مشین	۲۲	فنڈک	لیٹر / چمماق	۳
قیچی شاخ بری	ورخت کاٹنے کی قینچی	۲۳	تور	جال	۴
کلاہ ایمنی	ہیلمنٹ	۲۴	چکش	ہتھوڑی	۵
بیل	پھاؤڑا	۲۵	پیچ	پیچ	۶
چرخ با فندگی	چرخہ	۲۶	رنده	رندا	۷
ترازو	ترازو	۲۷	طوقاچ / داس / منگال	درانتی	۸
آلہ خاموش کردن آتش	آگ بمحابنے کا آلہ	۲۸	قرقرہ	چرخی	۹
آلہ سنجش باران	بارش ناپنے کا آلہ	۲۹	بلندگو / اسپیکر	اپیکر	۱۰
آلہ سنجش حرارت	گرمی ناپنے کا آلہ	۳۰	قطب نما	قطب نما	۱۱
طراز	سطح ناپنے کا آلہ	۳۱	میخ چاہ کنی	چھینی	۱۲
آلہ سنجش باد	ہواناپنے کا آلہ	۳۲	برس رنگ مالی	پینٹ برش	۱۳
آلہ سنجش رطوبت	تری ناپنے کا آلہ	۳۳	گاو آهن	ہل	۱۴
اسپیکر / بلندگوی دستی	ہاتھ والا اسپیکر	۳۴	غلطک	رولر	۱۵
ماشین سرتراشی	بال کاٹنے والی مشین	۳۵	سوہان	ریتی	۱۶
		۳۶	کمچہ	کرنقی	۱۷
		۳۷	جغل کش / سرند	کریدنی	۱۸

توضیحات	شماره	لغات اردو	توضیحه فارسی	لغات اردو	توضیحه فارسی	شماره
نعناع	۱۹	پودینہ	سبزیجات	سبزیاں	سبزیجات	۱
سیمارغ	۲۰	کھبی	زنجفیل	اورک	زنجفیل	۲
کاهو	۲۱	سلاوپتہ	کچالو	آلو	کچالو	۳
فلفل دلمهای	۲۲	شملا مرچ	بادنجان رومی / گرجہ	ٹماٹر	بادنجان رومی / گرجہ	۴
فلفل تند	۲۳	سبز مرچ	پیاز	پیاز	پیاز	۵
پیاز چہ	۲۴	سبز پیاز	زردک	گاجر	زردک	۶
متر / نخودسبز	۲۵	مڑ	سیر	لہسن	سیر	۷
گشنیز	۲۶	وھنیا	بادنجان سیاہ	مینگن	بادنجان سیاہ	۸
	۲۷		کلم برگ	بندگو بھی	کلم برگ	۹
	۲۸		گلپی / کلم	گوبھی	گلپی / کلم	۱۰
	۲۹		تریچہ سفید	مولی	تریچہ سفید	۱۱
	۳۰		ملی سرخک / شلغم	شلجم	ملی سرخک / شلغم	۱۲
	۳۱		اسفناج	پالک	اسفناج	۱۳
	۳۲		کدو تنبی / کدو زرد	پیٹھا کدو	کدو تنبی / کدو زرد	۱۴
	۳۳		توری	توری	توری	۱۵
	۳۴		بامیہ / بندی	بھنڈی	بامیہ / بندی	۱۶
	۳۵		چغندر	چقندر	چغندر	۱۷
	۳۶		کدو	کدو	کدو	۱۸
	۳۷					

میوه جات

ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ
انجیر	انجیر	۱۹	میوه	پھل	۱
آناناس	آناناں	۲۰	انار	انار	۲
کشمش	کشمش	۲۱	ام / انبہ	آم	۳
چمبر خیار	گلکری	۲۲	مالٹہ / نارنگی	مالٹا	۴
بادرنگ / خیار	کھیرا	۲۳	نارگیل	ناریل	۵
چیکو	چیکو	۲۴	انگور	انگور	۶
آلوبخارا	آلوبخارا	۲۵	خرما	کھجور	۷
بھی	امرود	۲۶	ناک / گلابی / امرود	ناشاپاتی	۸
عناب	بیر	۲۷	کیله / موز	کیلا	۹
جلغوزہ	چلغوزہ	۲۸	زرد آلو	خوبانی	۱۰
شفتالو	آزو	۲۹	ہندوانہ	تربوز	۱۱
پستہ	پستہ	۳۰	خربزہ	خربوزہ	۱۲
سیب	سیب	۳۱	بادام	بادام	۱۳
نارنج	نارنج	۳۲	چهارمغز / جوز	اخروٹ	۱۴
لیمو	لیموں	۳۳	شاه توت	شہتوت	۱۵
کیوی	کیوی	۳۴	خرمای خشک	کچی کھجور	۱۶
زیتون	زیتون	۳۵	توت فرنگی	استابری	۱۷
آلو سیاہ	جامن	۳۶	بادام زمینی	مونگ پھلی	۱۸
بادام هندی	کاجو	۳۷			

وسایل جنگی

ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ
توب	توب	۱۹	پستول/کلت	پستول	۱
تفنگ دوربین دار	اسنپر	۲۰	زیردریایی	آب دوز	۲
موتر زرہی/ماشین ضد گلوہ	بکٹر بند گاڑی	۲۱	مرمی/افشنگ	گولی	۳
بم	بم	۲۲	بندوق/تفنگ	بندوق	۴
قلعہ	قلعہ	۲۳	سپر	ڈھال	۵
ماشین دار	مشین گن	۲۴	خنجر	خنجر	۶
لشکر	لشکر	۲۵	کارتوس	کارتوس	۷
خندق	خندق	۲۶	منجنیق	منجنیق	۸
بم اشک آور	آن سو گیس بم	۲۷	زرہ	زرہ	۹
موشک زیر دریایی	تار پیڈو	۲۸	کلاہ جنگی	جنگی ٹوپی	۱۰
بارود	بارود	۲۹	شمشیر	تموار	۱۱
کشتی جنگی	جنگی کشتی	۳۰	نیزہ	نیزہ	۱۲
نیام (پوش شمشیر)	میان	۳۱	ژنرال	جزل	۱۳
تیر	تیر	۳۲	اسپ سوار	شہسوار	۱۴
ترکش/تیر دان	ترکش	۳۳	دستہ شمشیر	تموار کا قبضہ	۱۵
مرمی/گلوہ توب	توب کا گولا	۳۴	مین	مائن	۱۶
تیر کش/تیر دان	ترکش	۳۵	شاجور/خشب	میگزین	۱۷
هاون (توب کوچک)	چھوٹی توب	۳۶	دوربین	دوربین	۱۸
		۳۷			

پوشک و زیور آلات

ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ
زیرپوش	بنیان	۱۹	کفش	جوتا	۱
جاکت	سوئٹر / جیکٹ	۲۰	سرپایی	سلیپر / چل	۲
چپہ یقه	کار	۲۱	بوت	بوت	۳
طاقة پارچہ	سوٹ کا کپڑا	۲۲	کفش پاشنه بلند	ایڑھی والی جوتی	۴
کت	کوٹ	۲۳	کمربند	بیٹ	۵
آستین	آستین	۲۴	شلوار	پاجامہ	۶
یونیفورم	وردی	۲۵	پیراہن	قیص	۷
دامن	لہنگا	۲۶	یخن قاق / بلیز	سوٹ	۸
بلیز	بلاوزر	۲۷	لباس	کپڑے	۹
تاج	تاج	۲۸	نکتایی	ثائی	۱۰
کِرم رو	چہرے کا پاؤڈر	۲۹	کلاہ	ٹوپی	۱۱
لیف حمام	نہانے والا کپڑا	۳۰	مندیل / عمامہ	گپڑی	۱۲
گوتک نخ / فرقہ	دھاگہ نگلی	۳۱	شلوار	شلوار	۱۳
گیر مو	بالوں والا کلپ	۳۲	شال / دستمال	رومال	۱۴
انگشت	انگوٹھی	۳۳	روبند	برقعہ	۱۵
موچینک	موچنی	۳۴	جوراب	جرابیں / مسی	۱۶
شال گردن	مفلر	۳۵	پتلون / شلوار لی	پینٹ	۱۷
کیسه / جیب	جیب	۳۶	واسکت	واسکٹ	۱۸
نقرہ	چاندی	۳۷			

ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	شغل‌ها	
میوه فروش	پھل فروش	۵۶	ترجمہ فارسی	لغات اردو
عطرفروش	عطر فروش	۵۷	دکتر دندان	ڈینٹل ڈاکٹر
جاروکش	بھگنی	۵۸	زرگر / طلا فروش	سنار
مربی	کوچ	۵۹	دکتر حیوانات	جانوروں کا ڈاکٹر
لوله کش	پلمبر	۶۰	آشپز	باورچی
عکاس	تصویر بنانے والا	۶۱	پولیس	پولیس
دریور / راننده	ڈرائیور	۶۲	پولیس ترافیک	ٹریفیک پولیس
کیسه بر	جیب کرنا	۶۳	شاعر	شاعر
سبدساز	ٹوکری بنانے والا	۶۴	قاضی	نج
داروفروش	میدیکل اسٹور والہ	۶۵	جو شکار	ویلڈر
بافنده	جولاہا	۶۶	چوپان	چرواحا
غروتک / او باش / لات	بد معاش	۶۷	پستچی	ڈاکیا
شیرفروش	دودھ فروش	۶۸	رہبر	صدر
رنگ مال	رنگ ساز	۶۹	جادوگر	جادوگر
برقی / برق کش	ایکٹریشن	۷۰	صیاد (شکارچی ماہی)	محچیرا
باغبان	مالی	۷۱	نقاش	تصور
دزد	چور	۷۲	پرتاب کننڈہ توب	بولر
تاجر	تاجر	۷۳	رقص	ناچنے والا
داور	ریفری / امپائز	۷۴	کاپیتان	کپتان

شکل‌های هندسی

وسایل مكتب

ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ
شکل هرمی	ہرم نما	۱	تابلوی آهنی	سلیٹ	۳۸
پنج ضلعی	خماسی	۲	متر	پیمائش فیٹہ	۳۹
مکعب	مکعب	۳	کرہ زمین	گلوب	۴۰
مخروطی	مخروطی	۴	نوک قلم	نب	۴۱
مربع	مرربع	۵	پوش عینک	چشمہ پاکٹ	۴۲
شش ضلعی	سدس	۶	جلد کتاب	ٹائل کتاب	۴۳
سہ ضلعی	مائٹ	۷	حروف الفباء	حروف تہجی	۴۴
شکل اسطوانی	اسطوانی شکل	۸	فهرست	مینو	۴۵
مستطیل	مستطیل	۹	نقشه	نقشه	۴۶
کروی	کرہ	۱۰	چوکی/صندلی	کرسی	۴۷
بیضوی	بیضوی	۱۱	تذکرہ/شناسنامہ	شناختی کارڈ	۴۸
دائرہ	دائرة	۱۲	میز	تاپی / طیبل	۴۹
		۱۳	رحل	رحل	۵۰
		۱۴	تمبر پوست خانہ	پوست ٹکٹ	۵۱
		۱۵	روزنامہ	اخبار	۵۲
		۱۶	مهر	مهر	۵۳
		۱۷	اینچ	ائچ	۵۴
		۱۸			۵۵

ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	میریضی‌ها	لغات اردو	شمارہ
معاینه	تھرمائیٹر	۵۶	ترجمہ فارسی	ایکسرے	۳۸
آنٹی بیوتک	ہنٹی بائیوٹک	۵۷	ایکسرے / عکس	درد دندان	۳۹
سرفہ خشک	خشک کھانی	۵۸	درد شکم	درد کا درد	۴۰
سرفہ بلغم دار	بلغم والی کھانی	۵۹	آپاندیکس	اپنڈکس	۴۱
کلاج / کاج	بھینگا	۶۰	تیزاب معده	معدے کی تیزاب	۴۲
دانہ	دانہ / پھنسی	۶۱	زخم گلو	گلے کا زخم	۴۳
پچکاری / آمپول	ٹیکر / انجشن	۶۲	زخم معده	السر / معدہ کا زخم	۴۴
خارش	خارش	۶۳	حساسیت	الرجی	۴۵
پیس	کوڑھ	۶۴	اطاق عاجل / ارٹانس	ایم جنسی وارڈ	۴۶
سرگیچہ	چکر	۶۵	درد مفاصل	جوڑوں کا درد	۴۷
ریزش مو	بال گرنا	۶۶	درد چشم	آنکھ کا درد	۴۸
بدھضمی	بد ہضمی	۶۷	گروپ / گروہ خون	خون کا گروپ	۴۹
قبض	قبض	۶۸	عینک	نظر کا چشمہ	۵۰
سونو گرافی	الٹراساؤنڈ	۶۹	ائی - سی - یو	آلی - سی - یو	۵۱
اندسوکوپی	انڈسکوپی	۷۰	او - پی - دی	او - پی - ڈی	۵۲
پلستر / باند	پلاسٹر	۷۱	لیبارٹری / البرا توار	لیبارٹری	۵۳
تابلیت / قرص	گولی / ٹابلیٹ	۷۲	سنگ کلیہ	گردے کی پتھری	۵۴
تب	بنخار	۷۳	لوزہ ها	گلے کی غدوہ	۵۵
کپسول	کیپسول	۷۴			

ترجمہ فارسی	لغات اردو	شمارہ	مریضی‌ها
مالاریا	ملیریا	۱۹	ترجمہ فارسی
سرطان	کینسر	۲۰	مریضی
زردی	پیلیا	۲۱	پولیو
توبرکلوز	ٹی بی	۲۲	زکام/سرماخوردگی
کم خونی	انیمیا/خون کی کمی	۲۳	سردرد
ضعیفی	کمزوری	۲۴	درد معدہ
فشار خون	بلڈ پریشر	۲۵	درد کمر
فشار خون بالا	ہائی بلڈ پریشر	۲۶	سوژش
فشار خون پایین	لو بلڈ پریشر	۲۷	ورم
حملہ قلب	دل کی دورا	۲۸	نزله/ریزش بینی
مریضی جلدی	جلدی بیماری	۲۹	کر
عملیات/جراحی	آپریشن	۳۰	نایبنا
سرطان خون	خون کی کینسر	۳۱	لنگ
سرطان جلدی	جلدی کینسر	۳۲	فلج
سرطان مغز	دماغ کی کینسر	۳۳	گونگ
زخم	زخم	۳۴	بواسیر
سرخکان	خره	۳۵	اسھال
رماتیزم	ریماتیزم	۳۶	پیچش/دل پیچہ
ضعف بینایی	نظر کی کمزوری	۳۷	مریضی قند
			شوگر
			دست / موشن
			چیپش
			اندھا
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			وست
			LN
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر
			دست / موشن
			اسھال
			پیچش
			چیپش
			دست / موشن
			شوگر
			نگرا
			فانج
			گونگا
			بواسیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

درس اول

الفبای اردو

زبان اردو ۲۵ حرف دارد که به شرح زیر است:

آ - ا	ب	پ	ت	ث	ج	چ	ح	خ
د	ڈ	ڏ	ر	ڙ	ز	ڙ	ش	ص
ض	ط	ظ	ع	غ	ف	ق	ک	گ
(فیروزاللغات)								م

فائدہ۱: تمام حروف اردو مثل حروف زبان فارسی است غیر از سه حرف (ث، ڙ، ڙ)

فائدہ۲: هنگام ادای (ث، ڙ، ڙ) سر زبان به کام می خورد. (فیروزاللغات: ۷۱۴)

فائدہ۳: در زبان اردو دو نوع نون وجود دارد: ۱- نون اعلانیه ۲- نون غنہ:

نون اعلانیه مثل نون فارسی ادا می شود {و نقطه دارد} مانند: تین، هر ان نون غنہ در بینی ادا می شود {و نقطه ندارد} مانند: یہاں - وہاں (فیروزاللغات: ۱۴۰۰)

فائدہ۴: در زبان اردو دو نوع ^{۱۱} وجود دارد: ۱- واو معروف ۲- واو مجھول

واو معروف را مثل واو فارسی خوب ظاهر کرده ادا می نمایند مانند: دور، حور، اما واو مجھول را هنگام ادا خوب ظاهر نمی کنند مانند: زور، ہوش (فیروزاللغات: ۱۴۶۶)

فائدہ۵: در زبان اردو دو نوع «ی» وجود دارد: ۱- یاں معروف ۲- یاں مجھول

یاں معروف را مثل یاں فارسی خوب ظاهر کرده ادا می نمایند مانند: فقیر، عید. اما یاں مجھول را هنگام ادا خوب ظاهر نمی کنند مانند: دلیر، دیر (فیروزاللغات: ۱۵۲۹)

یاں معروف {اگر در آخر کلمہ باشد} چنین (ی) نوشته می شود: مانند: نواسی، پوتی

یاں مجھول {اگر در آخر کلمہ باشد} چنین (ے) نوشته می شود: مانند: پوتے، نواسے (فیروزاللغات: ۱۵۲۹)

درس دوم

ضمایر فاعلی و مفعولی

ضمیر کلمه‌ای را گویند که بجای اسم آمده و از تکرار اسم در جمله جلوگیری نماید.
ضمیر بر سه قسم است: ۱- ضمیر فاعلی ۲- ضمیر مفعولی ۳- ضمیر ملکی
ضمیر فاعلی: ضمیری را گویند که بجای فاعل (کننده کار) بیاید.

ضمایر فاعلی

حالت	تعداد	ضمیر	ترجمه	مثال اول	مثال دوم
غائب	واحد	او - اس نے	او	ووگیا = او رفت	اس نے ما = او زد
	جمع	آنها	آنها	وہ گئے = آنها رفند	انہوں نے مارے = آنها زند
حاضر	واحد	تو - تونے	تو	تو گیا = تو رفی	تونے مارا = تو زدی
	جمع	تم - آپ	شما	تم / آپ گئے = شما رفید	تم نے / آپ نے مارے = شما زدید
متخلص	واحد	میں - میں نے	من	میں گیا = من رفم	میں نے مارا = من زدم
	جمع	ہم - ہم نے	ما	ہم گئے = ما رفیم	ہم نے مارے = ما زدیم

نوت: حرف «نے» علامت فاعل است و فقط با افعال متعدد استعمال می شود مانند مثال های بالا

ضمیر مفعولی: ضمیری را گویند که بجای مفعول (کسی که عمل بر او واقع شده) بیاید.

ضمایر مفعولی

حالت	تعداد	ضمیر	ترجمه	مثال اول	مثال دوم
غائب	واحد	او را - اس کو	او را	اس کو لے گیا = او را برد.	اس لے گیا = او را برد.
	جمع	آنها را	آنها را	آن کو لے گیا = آنها را برد.	انہیں لے گیا = آنها را برد.
حاضر	واحد	تو را - تجھے	تو را	تجھے کو لے گیا = تو را برد.	تجھے لے گیا = تو را برد.
	جمع	شما را	شما را	تم کو / آپ کو لے گیا = شما را برد.	تمہیں لے گیا = شما را برد.
متخلص	واحد	من را - مجھے	من را	مجھ کو لے گیا = من را برد.	مجھے لے گیا = من را برد.
	جمع	ما را	ما را	ہم کو لے گیا = ما را برد.	ہمیں لے گیا = ما را برد.

درس سوم

ضمایر ملکی

ضمیر ملکی: ضمیری را گویند که تعلق و ارتباط یک چیز و یا یک شخص را با چیز و شخصی دیگر ظاهر نماید.

ضمایر ملکی					
مثال	محل استعمال	ترجمہ	ضمیر	تعداد	حالت
اس کا بیٹا: پسر او	پیش از واحد مذکور	از او - مال او	اس کا	واحد	غائب
اس کے بیٹے: پسران او	پیش از جمع مذکور	از او - مال او	اس کے		
اس کی بیٹی: دختر او - اس کی بیٹیاں: دختران او	پیش از واحد و جمع مونت	از او - مال او	اس کی		
ان کا بیٹا: پسر آنها	پیش از واحد مذکور	از او - مال او	ان کا	جمع	
ان کے بیٹے: پسران آنها	پیش از جمع مذکور	از آنها - مال آنها	ان کے		
ان کی بیٹی: دخترانها - ان کی بیٹیاں: دختران آنها	پیش از واحد و جمع مونت	از آنها - مال آنها	ان کی		
تیرا بیٹا: پسر تو	پیش از واحد مذکور	از تو - مال تو	تیرا	واحد	حاضر
تیرے بیٹے: پسران تو	پیش از جمع مذکور	از تو - مال تو	تیرے		
تیری بیٹی: دختر تو - تیری بیٹیاں: دختران تو	پیش از واحد و جمع مونت	از تو - مال تو	تیری		
تمہارا بیٹا: پسر شما آپ کا بیٹا: پسر شما	پیش از واحد مذکور	- از شما - مال شما آپ کا	تمہارا - مال شما آپ کا	جمع	
تمہارے بیٹے: پسران شما - آپ کے بیٹے: پسران شما	پیش از جمع مذکور	- از شما - مال شما کے	تمہارے - آپ مال شما کے		
تمہاری / آپ کی بیٹی: دختر شما تمہاری / آپ کی بیٹیاں: دختران شما	پیش از واحد و جمع مونت	- از شما - مال شما آپ کی	تمہاری - مال شما آپ کی		
میرا بیٹا: پسر من	پیش از واحد مذکور	از من - مال من	میرا	واحد	ستکلم
میرے بیٹے: پسران من	پیش از جمع مذکور	از من - مال من	میرے		
میری بیٹی / بیٹیاں: دختر / دختران من	پیش از واحد و جمع مونت	از من - مال من	میری		
ہمارا بیٹا: پسر ما	پیش از واحد مذکور	از ما - مال ما	ہمارا	جمع	
ہمارے بیٹے: پسران ما	پیش از جمع مذکور	از ما - مال ما	ہمارے		
ہماری بیٹی / بیٹیاں: دختر / دختران ما	پیش از واحد و جمع مونت	از ما - مال ما	ہماری		

درس چهارم

صفات ملکی

صفات ملکی تعلق و ارتباط یک چیز و یا یک شخص را با خود فاعل نشان می‌دهد.

صفات ملکی عبارتند از:

۱- اپنا: برای واحد مذکور مانند: محمود نے اپنای بھائی کو اسکول لے گیا = محمود برادر خود را به مکتب (مدرسه دولتی) برد.

۲- اپنے: برای جمع مذکور مانند: محمود نے اپنے بھائیوں کو اسکول لے گیا = محمود برادران خود را به مکتب (مدرسه دولتی) برد.

۳- اپنی: برای واحد و جمع مؤنث مانند: محمود نے اپنی بہن کو اسکول لے گیا = محمود خواهر خود را به مکتب (مدرسه دولتی) برد. - محمود نے اپنی بہنوں کو اسکول لے گیا = (محمود خواهران خود را به مکتب (مدرسه دولتی) برد.

اسم اشاره

اسم اشاره: اسمی را گویند که برای اشاره کردن به چیز یا شخصی استفاده شود.

اسم اشاره بر دو قسم است:

اسم اشاره قریب: اسمی را گویند که برای اشاره کردن به چیز یا شخصی نزدیک استفاده شود.

اسم اشاره بعید: اسمی را گویند که برای اشاره کردن به چیز یا شخصی دور استفاده شود.

حالت	اسم اشاره قریب	مثال
واحد	یہ (این)	یہ کتاب ہے = این کتاب است.
	اس (این)	اس پچ کتاب میں ہے = نام این بچہ محمود است.
جمع	إن (اینہا)	إن پچوں کو مت مارو = این بچہ‌ها را نزن.

حالت	اسم اشاره بعید	مثال
واحد	وہ (ان)	وہ تصویر ہے = آن عکس است.
	آس (ان)	آس کتاب کا نام کیا ہے؟ = نام آن کتاب چیست؟
جمع	آن (انہا)	آن پچوں کو بلاؤ = آن بچہ‌ها را صدا بزن.

درس پنجم

کلمات پرسشی

مثال	معنی	کلمات	شمارہ
آپ کا نام کیا ہے؟ = نام شما چیست؟	چہ	کیا	۱
کیا حامد گیا ہے؟ آیا حامد رفتہ است؟	آیا	کیا	۲
کب جاتے ہو؟ چہ وقت می روی؟	کی/چہ وقت	کب	۳
کیوں بات کرتے ہو؟ چرا سخن می گویید؟	چرا	کیوں	۴
کہاں رہتے ہو؟ کجا زندگی می کنید؟	کجا	کہاں	۵
کہاں جا رہے ہو؟ کجا می روید؟	کجا	کہاں	۶
آپ کا بیٹا کیسا ہے؟ پسر شما چطور است؟	چگونہ	کیسا	۷
آپ کی بیٹی کیسی ہے؟ دختر شما چطور است؟	چگونہ	کیسی	۸
آپ کے میٹے کیسے ہیں؟ پسران شما چطور اند؟	چگونہ	کیسے	۹
کون آیا ہے؟ چہ کسی آمدہ است؟	کی/چہ کسی	کون	۱۰
کونسا بیٹا آیا ہے؟ کدام پسر آمدہ است.	کدام	کونسا	۱۱
کونی بیٹی آئی ہے؟ کدام دختر آمدہ است.	کدام	کونی	۱۲
کونے بچے آئے ہیں؟ کدام بچہ‌ها آمدہ اند.	کدام	کونے	۱۳
اس گھر کا عرض کتنا ہے؟ عرض این خانہ چقدر است؟	چند/چقدر	کتنا	۱۴
آپ کی عمر کتنی ہے؟ سن شما چقدر است؟	چند/چقدر	کتنی	۱۵
آپ کے بچے کتنے ہیں؟ بچہ‌های شما چند تا است؟	چند/چقدر	کتنے	۱۶
کس نے یہ کام کیا ہے؟ چہ کسی این کار را کرده است.	چہ کسی	کس	۱۷
کس لئے سفر کیا؟ برای چہ سفر کردی؟	برای چہ	کس لئے	۱۸
کس طرح سوتے ہو؟ چگونہ می خوابید؟	چگونہ	کس طرح	۱۹

درس ششم

روش ساختن جمع

در لسان اردو به روش‌های زیر جمع ساخته می‌شود:

۱- با اضافه کردن «وں» در آخر اسم‌ها جمع ساخته می‌شود. مانند: کتاب: کتابوں (کتاب‌ها)
مثال: ان کتابوں کے نام ^{لکھوں}= نام این کتاب‌ها را بنویس.

۲- با اضافه کردن «یں» در آخر اسم‌ها جمع ساخته می‌شود. مانند: پنسل: پنسلیں (پنسل‌ها)
مثال: پنسلیں گم ہو گئیں = پنسل‌ها گم شدند.

۳- اگر در آخر واحد مذکور «الف» یا «ه» باشد با تبدیل کردن آن به «ے» جمع ساخته می‌شود.
مانند: لڑکا: لڑکے (پسرها)؛ بچہ: بچے (بچه‌ها)

مثال: لڑکے کھانا کھا رہے ہیں = پسران غذا می خورند. - بچے کھیل رہے ہیں = بچہ‌ها بازی می کنند.

۴- اگر در آخر واحد مؤنث «ی» باشد با اضافه کردن «ال» جمع ساخته می‌شود. مانند: مرغی:
مرغیاں (مرغ‌ها) مثال: یہ خوبصورت مرغیاں ہیں = اینها مرغ‌های زیبایی هستند.

۵- اگر در آخر واحد مؤنث «الف» یا «واو» باشد با اضافه کردن «ئیں» جمع ساخته می‌شود.
مانند: خطاء: خطائیں؛ (خطاها) خوشبو: خوشبوئیں (خوشبوها)

مثال: میرے خطائیں معاف کرنا = خطاهایم را ببخشید. یہ خوشبوئیں سونگھلو = این خوشبوها (عطرها) را بوی کن.

۶- اگر در آخر واحد مؤنث «یا» باشد با اضافه کردن «ل» جمع ساخته می‌شود. مانند: گڑیا: گڑیاں
(عروسک‌ها) مثال: وہ گڑیاں خرید لو = آن عروسک‌ها را بخر.

درس هفتم

مذکر و مؤنث

- ۱- نام روزها و ماهها مذکر است غیر از «جعرات = پنجشنبه» که مؤنث است.
- ۲- نام کوهها و دریاها مذکر است غیر از «گنگا و جمنا» که مؤنث است.
- ۳- نام تمام سیاره‌ها (سورن: خورشید - چاند: ماه - عطارد، مشتری و زهره) مذکر است غیر از «زمین» که مؤنث است.
- ۴- نام تمام فلزات و آهن‌ها (لوها: آهن - سونا: طلا - پتیل: مس و ...) مذکر است غیر از «قلقی: گلت - چاندی: نقره» که مؤنث است.
- ۵- نام تمام آوازها مؤنث است مانند: چو! چو! (صدای گنجشک‌ها و رفتن موثر)، سائیں سائیں (صدای وزیدن باد)، گڑگڑاہٹ (صدای فیر مسلسل توب) و ...
- ۶- نام تمام لسان‌ها مؤنث است مانند: اردو، فارسی، عربی، پنجابی، سندھی، بلوجی، انگریزی و ...
- ۷- نام کتاب‌ها عموماً مؤنث است البته کتابی که در ابتدای نامش کلمه «قصه» باشد مذکر است. مانند: قصه چار دریا و شش
- ۸- نام تمام قاره‌ها، کشورها، شهرها و قریه‌ها مذکر است مانند: یورپ، ایشیا، افریقیه، پاکستان، کراچی، لاہور و ...
- ۹- نام تمام نمازها مؤنث است مانند: فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، تجد و ...
- ۱۰- کلمه‌ای که در آخرش یای معروف (ی) باشد عموماً مؤنث است مانند: نیکی، بدی، روئی و ... غیر از (وی: ماست - گھی: روغن - پانی: آب - موئی: مروارید) که مذکر است.
- ۱۱- کلمه‌ای که در آخرش الف باشد عموماً مؤنث است مانند: ابتداء، انتها، دعا، وفا، حیا، قضاو و ...
- ۱۲- کلمه‌ای که در آخرش «او» یا «پن» باشد مذکر است مانند: پھیلاؤ، بھاؤ، چڑھاؤ، بچپن، لڑکپن و ...
- ۱۳- این کلمات همیشه مذکر است: نکث، اخبار، مرض، درد، زهر، عشق، وعظ، تار، ہوش
- ۱۴- این کلمات همیشه مؤنث است: کار، سائیکل، پارٹی، میٹنگ
- ۱۵- بعضی کلمات مشترک اند یعنی هم مذکر اند و هم مؤنث مانند: بچه، کھلاڑی، دوست، یتیم، مہمان، مسافر، صدر، وزیر اعظم.

درس هشتم

مصدر

مصدر اسمی است که خودش از چیزی ساخته نشده اما کلمات زیادی از او ساخته می‌شود. مانند: **لکھنا** که از او لکھا، لکھتا ہوں، لکھنے والا و... ساخته شده است.

در زبان اردو علامت «نا» در آخر مصدر می‌آید مانند: **لکھنا**، پینا، سونا البته در آخر بعضی اسم‌ها «نا» است اما مصدر نیستند مانند: **نانا**، **کھلونا**، **کتنا** و علامت مصدر این است که اگر از آخرش «نا» را حذف کنیم فعل امر ساخته می‌شود. **لکھنا**=**لکھ** – **پینا** = پی. مثال: صرف **کھانا** پینا ہی زندگی کا مقصد نہیں = فقط خوردن و نوشیدن مقصد زندگی نیست.

اسم فاعل

اسم فاعل اسمی را گویند که بجای کننده کار استفاده شود. مانند: **جھوٹ بولنے والے** پر خدا کی لعنت = لعنت خدا بر دروغگو.

روش ساخت اسم فاعل: الفی را که آخر مصدر است به یا مجھوں (ے) تبدیل نموده بعد از آن «والا» اضافه می‌کنیم مانند: **بولنا**=**بولنے والے** پینا=**پینے والے** – **کھانا**=**کھانے والے**

اسم مفعول

اسم مفعول اسمی را گویند که بجای چیز یا کسی که فعل بر او واقع شده، استفاده شود. مانند: **اگر اللہ چا ہے تو مرا ہوا بھی زندہ ہو جائے** = اگر خداوند بخواهد مردہ ہم زندہ می‌شود.

روش ساخت اسم مفعول: با اضافه کردن «ہوا» در آخر ماضی مطلق اسم مفعول ساخته می‌شود مانند: **لکھا**=**لکھا ہوا** سنا=**سنا ہوا** دیکھا=**دیکھا ہوا**

درس نهم

اسم حالیہ

اسم حالیہ اسمی را گویند کہ حالت فاعل یا مفعول و یا ہر دو را بیان کند مانند: **فیصل ہستا ہوا جماعت میں داخل ہوا** (فیصل با خنده داخل صنف شد)۔ پچھی روئی ہوئی سوگئی (دختر بچہ با گریہ خوابید)۔ طلبے بھاگتے ہوئے مدرسہ آگئے (طلاب دویدہ مدرسہ آمدند)

روش ساخت اسم حالیہ: علامت مصدر «نا» را حذف نموده و «تاہوا» یا «تی ہوئی» یا «تے ہوئے» را اضافہ می کنیں مانند: آنا=آتا ہوا، آتی ہوئی، آتے ہوئے۔ کھلنا=کھلیتا ہوا، کھلیتی ہوئی، کھلتے ہوئے

مرکب توصیفی

مرکب توصیفی مرکبی را گویند کہ در آن صفت و موصوف هر دو باشند.

در لسان اردو صفت ہمیشہ قبل از موصوف می آید مانند:

خوبصورت تصویر (عکس زیبا) - نیک لڑکا (پسر نیک) - ٹھنڈا پانی (آب سرد)

مرکب اضافی

مرکب اضافی مرکبی را گویند کہ در آن مضاف و مضاف الیہ هر دو باشند مانند: **فیصل کی کتاب** (کتاب فیصل) در لسان اردو مضاف الیہ ہمیشہ قبل از مضاف می آید.

برای مضاف کردن و نسبت دادن چیزی به چیزی دیگر از حروف زیر استفادہ می شود:

۱- کا: برای نسبت دادن واحد مذکور مانند: محمود کا بھائی (براذر محمود)

۲- کی: برای نسبت دادن واحد و جمع مؤنث مانند: محمود کی بہن (خواهر محمود) - محمود کے بہنیں (خواهران محمود)

۳- کے : برای نسبت دادن جمع مذکور مانند: - محمود کے بھائیوں (براذران محمود)

درس دهم

حروف عطف

حروف عطف حروفی را می نامند که برای وصل کردن دو اسم یا دو جمله استفاده می شوند.

شماره	حروف	معنی	مثال
۱	و	و	حامد و محمود بھائی ہیں = حامد و محمود برادراند.
۲	اور	و	کتاب اور پن خرید لو = کتاب و قلم بخر.
۳	پھر	سپس	کھانا کھاؤ پھر جاؤ = غذا بخور سپس برو.

حروف شرط

حروف شرط حروفی را می نامند که در ابتدای جمله می آیند و معنای شرط را می دهند.

شماره	حروف	معنی	مثال
۱	اگر	اگر	اگر تم محنت کرتے تو کامیاب ہو جاتے = اگر شما تلاش می کردید کامیاب می شدید.
۲	جب	وقتیکہ	جب فیصل آئے گا تب میں جاؤں گا = وقتیکہ فیصل بیاید من می روم.
۳	جب تک	تا و وقتیکہ	جب تک فیصل نہ آئے میں نہیں جاؤں گا = تا وقتیکہ فیصل بیاید من نمی روم.
۴	جو	هرچہ	جو بوجو گے سو کاٹو گے = هرچہ بکاری درو می کنی.

حروف تشییه

حروف تشییه حروفی را می نامند که برای تشییه دادن چیزی به چیزی دیگر استفاده می شوند.

شماره	حروف	معنی	مثال
۱	جیسے	مثل / مانند	موتی جیسے دانت = دندان ہایی مثل مروارید.
۲	طرح	مثل / مانند	برف کی طرح ٹھنڈا = سرد مثل بخ.
۳	مانند	مانند	بھیڑیئے کی مانند ظالم = ظالم مانند گرگ.
۴	مثل	مانند	شیر کی مثل بہادر = شجاع مثل شیر.

درس یازدهم

حروف علت

حروف علت حروفی را می‌نامند که برای بیان کردن علت و سبب یک کار استفاده می‌شوند.

شماره	حروف	معنی	مثال
۱	کیونکہ	چرا که	هم باہرنہ نکل سکے کیونکہ سخت گرمی تھی (ما نتوانستیم بیرون شویم چرا که گرمی شدید بود،)
۲	اس لئے کہ	برای اینکہ	هم باہرنہ نکل سکے اس لئے کہ سخت گرمی تھی (ما نتوانستیم بیرون شویم برای اینکہ گرمی شدید بود،)
۳	اس واسطے کہ	به این خاطر کہ	هم باہرنہ نکل سکے اس واسطے کہ سخت گرمی تھی (ما نتوانستیم بیرون شویم به این خاطر کہ گرمی شدید بود،)
۴	چونکہ	چونکہ	چونکہ سخت گرمی تھی هم باہرنہ نکل سکے (چونکہ گرمی شدید بود، ما نتوانستیم بیرون شویم)

حروف جر

حروف جر حروفی را می‌نامند که برای ربط دادن اسم با فعل در جمله استفاده می‌شوند.

شماره	حروف	معنی	مثال
۱	میں	در	میں اسکول میں پڑھتا ہوں = من در مکتب درس می خوانم.
۲	سے	از	میں کراچی شہر سے ہوں = من از شهر کراچی هستم.
۳	سے	با	مجھے آپ سے محبت ہے = من با شما محبت دارم.
۴	پر	در	میں گھر پر ہوں = من در خانہ هستم.
۵	تک	تا	مجھے بازار تک لے جاؤ = من را تا بازار ببر.
۶	لئے	برای	میرے لئے پانی لاؤ = برای من آب بیاور.
۷	کے لئے	برای	احمد کے لئے چالی لاؤ = برای احمد چالی بیاور.
۸	ساتھ	با / همراہ	احمد کے ساتھ جاؤ = همراہ احمد برو.

درس دوازدهم

اجزای جملہ

عموماً یک جملہ از فعل و فاعل و گاهی اوقات مفعول ساخته می شود۔ فعل کلمہ ای است کہ بر انجام گرفتن یا انجام دادن کاری دلالت می کند۔ فاعل انجام دهنده فعل را می نامند۔ مفعول شخص یا چیزی را که فعل بر آن واقع شده است، می نامند مانند: احمد آیا (احمد آمد) که «احمد» فاعل و «آیا» فعل است۔ احمد کھانا کھایا (احمد غذا خورد)؛ «احمد» فاعل، «کھانا» مفعول و «کھایا» فعل است۔ در لسان اردو همیشہ اول فاعل سپس مفعول و در آخر فعل می آید مانند:

فعل	مفعول	فاعل
کھایا	کھانا	احمد
خورد	غذا	احمد

افعال بودن (زمان حال)

این افعال موجودیت یک شخص و یا یک چیز را در زمان حال نشان می دهند مانند: یہ ایک اسکول ہے = این یک مکتب است۔ میں مسلمان ہوں = من مسلمان ہستم۔

او مریض ہست.	وہ بیمار ہے	واحد غائب
تو مریض ہستی.	تو بیمار ہے	واحد حاضر
من مریض ہستم.	میں بیمار ہوں	واحد متکلم

آنها مریض ہستند.	وہ بیمار ہیں	جمع غائب
شما مریض ہستید.	تم بیمار ہو	جمع حاضر
شما مریض ہستید.	آپ بیمار ہیں	جمع حاضر
ما مریض ہستیم.	ہم بیمار ہیں	جمع متکلم

درس سیزدهم

افعال بودن (زمان گذشته)

این افعال موجودیت یک شخص و یا یک چیز را در زمان گذشته نشان می‌دهند مانند: یہ ایک اسکول تھا = این یک مکتب بود.

او مریض بود.	وہ بیمار تھا / تھی	واحد غائب
تو مریض بودی.	تو بیمار تھا / تھی	واحد حاضر
من مریض بودم.	میں بیمار تھا / تھی	واحد متکلم

آنها مریض بودند.	وہ بیمار تھے	جمع غائب
شما مریض بودید.	تم / آپ بیمار تھے	جمع حاضر
ما مریض بودیم.	ہم بیمار تھے	جمع متکلم

درس چهاردهم

افعال بودن (زمان آینده)

این افعال موجودیت یک شخص و یا یک چیز را در زمان آینده نشان می‌دهند مانند: یہ ایک اسکول ہو گا = این یک مکتب خواهد شد.

او کامیاب خواهد شد.	وہ کامیاب ہو گا / ہو گی	واحد غائب
تو کامیاب خواهی شد.	تو کامیاب ہو گا / ہو گی	واحد حاضر
من کامیاب خواهم شد.	میں کامیاب ہوں گا / ہوں گی	واحد متکلم

آنها کامیاب خواهند شد.	وہ کامیاب ہوں گے	جمع غائب
شما کامیاب خواهید شد.	تم / آپ کامیاب ہوں گے	جمع حاضر
ما کامیاب خواهیم شد.	ہم کامیاب ہوں گے	جمع متکلم

درس پانزدهم

فعل

فعل کلمه‌ای است که بر انجام کاری در یکی از زمان‌ها (گذشته، حال، آینده) دلالت نماید مانند: احمد نے خط لکھا: احمد نامه نوشت.

فعل بر سه قسم است:

۱ - **ماضی:** فعلی را گویند که بر انجام کاری در زمان گذشته دلالت نماید مانند: احمد نے خط لکھا: احمد نامه نوشت.

۲ - **حال:** فعلی را گویند که بر انجام کاری در زمان حال دلالت نماید مانند: احمد خط لکھ رہا ہے: احمد نامہ میں نویسنا.

۳ - **مستقبل (آینده):** فعلی را گویند که بر انجام کاری در زمان آینده دلالت نماید مانند: احمد خط لکھے گا: احمد نامه خواهد نوشت.

اقسام ماضی

ماضی بر شش قسم است:

ماضی مطلق؛ ماضی قریب؛ ماضی بعید؛ ماضی استمراری؛ ماضی احتمالی، ماضی تمنایی

۱ - **ماضی مطلق:** فعلی را گویند که بر انجام کاری در زمان گذشته دلالت نماید بدون اینکه دوری یا نزدیکی آن را ظاهر نماید مانند: احمد نے خط لکھا: احمد نامه نوشت.

روش ساخت ماضی مطلق: علامت مصدر «نا» را حذف می‌کنیم بعد از آن اگر «الف» یا «واو» باقی ماند حرف «یا» را اضافه می‌کنیم مانند: کھانا -نا+یا=کھایا (خورد) – رونا -نا+یا= رویا (گریه کرد) و اگر حرفی دیگر باقی ماند «الف» اضافه می‌کنیم مانند: لکھنا-نا+ا=لکھا (نوشت)

ماضی مطلق						
جنس	واحد غائب	جمع غائب	واحد حاضر	جمع حاضر	واحد متکلم	جمع متکلم
مذكر	وہ آیا	وہ آئے	تو آیا	تم/آپ آئے	میں آیا	هم آئے
مؤنث	وہ آئی	وہ آئیں	تو آئی	تم/آپ آئیں	میں آئی	هم آئیں
ترجمہ	او امد	آنها امدند	تو امدی	شما امدید	من امدم	ما امدیم
مذكر	وہ لکھا	وہ لکھے	تو لکھا	تم/آپ لکھے	میں لکھا	هم لکھے
مؤنث	وہ لکھی	وہ لکھیں	تو لکھی	تم/آپ لکھیں	میں لکھی	هم لکھیں
ترجمہ	او نوشت	آنها نوشتند	تو نوشتی	شما نوشتید	من نوشتیم	ما نوشتیم

درس شانزدهم

-۲ **ماضی قریب:** فعلی را گویند که بر انجام کاری در زمان گذشته نزدیک دلالت نماید مانند: احمد نے خط لکھا ہے: احمد نامہ نوشته است.

روش ساخت ماضی قریب: با اضافه کردن «ہے - ہیں - ہوں» در آخر ماضی مطلق، ماضی قریب ساخته می شود مانند: کھایا + ہے = کھایا ہے (خورده است) - کھائے + ہیں = کھائے ہیں (خورده اند) - کھایا + ہوں = کھایا ہوں (خورده ام)

ماضی قریب						
جنس	واحد غائب	جمع غائب	واحد حاضر	جمع حاضر	واحد متکلم	جمع متکلم
مذکور	وہ آیا ہے	وہ آئے ہیں	تو آیا ہے	تم / آپ آئے ہیں	میں آیا ہوں	ہم آئے ہیں
مؤنث	وہ آیی ہے	وہ آئی ہیں	تو آیی ہے	تم / آپ آیی ہیں	میں آیی ہوں	ہم آیی ہیں
ترجمہ	او	آنها	تو	شما	من	ما
	آمدہ است.	آمدہ اند	آمدہ ای	آمدہ اید	آمدہ ام	آمدہ ایم

درس هفدهم

۳-ماضی بعید: فعلی را گویند که بر انجام کاری در زمان گذشته دور دلالت نماید مانند: احمد نے خط

لکھا تھا: احمد نامہ نوشته بود.

روش ساخت ماضی بعید: با اضافه کردن «تھا، تھے، تھی، تھیں» در آخر ماضی مطلق، ماضی

بعید ساخته می شود مانند: کھایا + تھا = کھایا تھا (خورده بود) - کھائے + تھے = کھائے تھے (خورده بودند).

کھایی + تھی = کھایی تھی (خورده بود) - کھایی + تھیں = کھایی تھیں (خورده بودند)

ماضی بعید							
جمع متکلم	واحد متکلم	جمع حاضر	واحد حاضر	واحد غائب	واحد غائب	جنس	ترجمہ
ہم آئے تھے	میں آیا تھا	تم / آپ آئے تھے	تو آیا تھا	وہ آئے تھے	وہ آیا تھا	مذکر	
ہم آئی تھیں	میں آئی تھیں	تم / آپ آئی تھیں	تو آئی تھی	وہ آئی تھیں	وہ آئی تھی	مؤنث	
ما	من	شما	تو	آنها	او		
آمده بودیم	آمده بودم	آمده بودید	آمده بودی	آمده بودند	آمده بود		

درس هیجدهم

۴-ماضی استمراری: فعلی را گویند که بر انجام کاری در زمان گذشته بصورت دوام و استمرار

دلالت نماید مانند: احمد خط لکھتا تھا / لکھ رہا تھا احمد نامہ می نوشت.

روش ساخت ماضی استمراری: علامت مصدر «نَا» را حذف می کنیم بعد از آن «تاتھا» یا «تے تھے» یا «رہے تھے» یا «تی تھی» یا «رہی تھی» یا «تی تھیں» یا «رہی تھیں» را اضافه می کنیم مانند:
 کھانا - نا + تاتھا / رہا تھا = کھاتا تھا، کھارہا تھا (می خورد) * کھانا - نا + تے تھے / رہے تھے = کھاتے تھے، کھارہے تھے (می خوردند)
 * کھانا - نا + تی تھی / رہی تھی = کھاتی تھی، کھارہی تھی (می خورد) * کھانا - نا + تی تھیں / رہی تھیں = کھاتی تھیں، کھارہی تھیں
 (می خوردند)

ماضی استمراری						
جمع متکلم	واحد متکلم	جمع حاضر	واحد حاضر	جمع غائب	واحد غائب	جنس
ہم آتے تھے	میں آتا تھا	تم / آپ آتے تھے	تو آتا تھا	وہ آتے تھے	وہ آتا تھا	مذکور
ہم آرہے تھے	میں آرہا تھا	تم / آپ آرہے تھے	تو آرہا تھا	وہ آرہے تھے	وہ آرہا تھا	
ہم آتی تھیں	میں آتی تھیں	تم / آپ آتی تھیں	تو آتی تھی	وہ آتی تھیں	وہ آتی تھی	مؤفت
ہم آرہی تھیں	میں آرہی تھیں	تم / آپ آرہی تھیں	تو آرہی تھیں	وہ آرہی تھیں	وہ آرہی تھی	
ما	من	شما	تو	آنها	او	ترجمہ
می آمدیم	می آمدم	می آمدید	می آمدی	می آمدند	می آمد.	

درس نوزدهم

۵-ماضی احتمالی یا شکی: فعلی را گویند که بر انجام کاری در زمان گذشته بصورت احتمال و شک

دلالت نماید مانند: شاید احمد نے خط لکھا ہوگا؛ احمد شاید نامہ نوشته باشد.

روش ساخت ماضی احتمالی یا شکی: با اضافه کردن « ہوگا، ہوگئے، ہوگی، ہونگا، ہونگی» در آخر

ماضی مطلق، ماضی احتمالی ساخته می شود مانند: کھایا + ہوگا = کھایا ہوگا (شاید خورده باشد)*

* کھائے + ہوگئے = کھائے ہوگئے (شاید خورده باشند)* کھایی + ہوگی = کھایی ہوگی (شاید خورده باشد)

* کھایی + ہوگی = کھایی ہوگی (شاید خورده باشند)* کھایا + ہونگا = کھایا ہونگا (شاید خورده باشم)

ماضی احتمالی							
جنس	واحد غائب	جمع غائب	واحد حاضر	جمع حاضر	واحد متکلم	جمع متکلم	
مذكر	وہ	وہ	تو	تم/آپ	میں	ہم	
	آئے ہوگے	آئے ہوگے	آیا ہوگا	آئے ہوگے	آیا ہوگا	آئے ہوگے	
مؤنث	وہ	وہ	تو	تم/آپ	میں	ہم	
	آیی ہوگی	آیی ہوگی	آیی ہوگی	آیی ہوگی	آیی ہوگی	آیی ہوگی	
ترجمہ	او	آنها	تو	شما	من	ما	
	شاید آمدہ باشند.	شاید آمدہ باشند.	شاید آمدہ باشید	شاید آمدہ باشیم	شاید آمدہ باشیم	شاید آمدہ باشیم	

درس بیستم

۶-ماضی تمنایی یا شرطی: فعلی را گویند که بر وجود شرط یا آرزو و خواهش انجام کاری در زمان

گذشته دلالت نماید: کاش احمد خط لکھتا: کاش احمد نامه می نوشت.

روش ساخت ماضی تمنایی یا شرطی: علامت مصدر «نا» را حذف می کنیم بعد از آن «تا»

یا «تے» یا «تی» یا «تیں» را اضافه می کنیم مانند: کhana - na + ta = کھاتا (اگر/کاش می خورد)* کhana - na +

تے = کھاتے (اگر/کاش می خوردن)* کhana - na + تی = کھاتی (اگر/کاش می خورد)* کhana - na + تیں =

کھاتیں (اگر/کاش می خوردن)

ماضی تمنایی							
جنس	واحد غائب	جمع غائب	واحد حاضر	جمع حاضر	واحد متکلم	جمع متکلم	
مذكر	وہ آتا	وہ آتے	تو آتا	تم/آپ آتے	میں آتا	هم آتے	
مؤنث	وہ آتی	وہ آتیں	تو آتی	تم/آپ آتیں	میں آتی	هم آتیں	
ترجمہ	او	آنها	تو	شما	من	ما	
	اگر/کاش	اگر/کاش	اگر/کاش	اگر/کاش	اگر/کاش	اگر/کاش	
	می آمدند.	می آمدیں	می آمدی	می آمدم	می آمدیم	می آمدیم	

درس بیست و یکم (الف)

فعل حال سادہ

فعل حال سادہ: فعلی را گویند کہ بر انجام کاری در زمان حال دلالت نماید مانند: احمد خط لکھتا ہے: احمد نامہ می نویسد.

روش ساخت فعل حال: علامت مصدر «نَا» را حذف می کنیم بعد از آن «تاہے» یا «تی ہے» یا
 «تے ہیں» یا «تی ہیں» یا «تے ہو» یا «تی ہو» یا «تاہوں» یا «تی ہوں» را اضافہ می کنیم مانند:
 کھانا-نَا+تاہے = کھاتا ہے: (می خورد) * کھانا-نَا+تے ہیں = کھاتے ہیں: (می خورند) * کھانا-نَا+تی ہے = کھاتی ہے:
 (می خورد) * کھانا-نَا+تی ہیں = کھاتی ہیں: (می خورند)

فعل حال							
جنس	واحد غائب	جمع غائب	واحد حاضر	جمع حاضر	واحد متکلم	جمع متکلم	جنس
مذكر	وہ آتا ہے	وہ آتے ہیں	تو آتا ہے	تم آتے ہو-آپ آتے ہیں	میں آتاہوں	ہم آتے ہیں	مذكر
مؤنث	وہ آتی ہے	وہ آتی ہیں	تو آتی ہے	تم آتی ہو-آپ آتی ہیں	میں آتی ہوں	ہم آتی ہیں	مؤنث
ترجمہ	او می آید	آنہامی آیند	تو می آیں	شما می آیید	من می آیم	ما می آییم	ترجمہ

درس بیست و یکم (ب)

فعل حال جاری

فعل حال جاری: فعلی را گویند که بر انجام کاری دلالت نماید که هنگام سخن گفتن در جریان باشد
مانند: احمد خط لکھ رہا ہے: (احمد دارد نامہ می نویسد.)

روش ساخت فعل حال: علامت مصدر «نا» را حذف می کنیم بعد از آن «رہا ہے» یا «رہی ہے» یا «رہے ہیں» یا «رہی ہیں» یا «رہے ہو» یا «رہا ہوں» یا «رہی ہوں» یا «رہا ہوں» را اضافہ می کنیم مانند:
 کھانا-نا+ رہا ہے = کھارا ہے (دارد می خورد) * کھانا-نا+ رہے ہیں = کھارا ہے ہیں (دارند می خورند) * کھانا-نا+ رہی
 ہے = کھارا ہی ہے (دارد می خورد) * کھانا-نا+ رہی ہیں = کھارا ہی ہیں (دارند می خورند)

فعل حال						
جنس	واحد غائب	جمع غائب	واحد حاضر	جمع حاضر	واحد متکلم	جمع متکلم
مذكر	وہ آرہا ہے	وہ آرہے ہیں	تو آرہا ہے	تم آرہے ہو-آپ آرہے ہیں	میں آرہا ہوں	ہم آرہے ہیں
مؤنث	وہ آرہی ہے	وہ آرہی ہیں	تو آرہی ہے	تم آرہی ہو-آپ آرہی ہیں	میں آرہی ہوں	ہم آرہی ہیں
ترجمہ	او دارد	آنها دارند	تو داری	شما دارید می آیید	من دارم	ما داریم می آییم
	می آید	می آیند	می آیی			

درس بیست و دوم

فعل مضارع

فعل مضارع: فعلی را گویند که بر انجام کاری در زمان حال و آینده دلالت نماید مانند: احمد خط لکھے: احمد نامه بنویسد.

روش ساخت فعل مضارع: علامت مصدر «نَا» را حذف می‌کنیم بعد از آن اگر «الف» یا «واو» باقی ماند «ئے» یا «ئیں» یا «و» یا «وں» را اضافه می‌کنیم مانند: کھانا-نَا + ئے = کھائے (بخورد) * کھانا-نَا + ئیں = کھائیں (بخورند) * کھانا-نَا + و = کھاؤ (بخورید) * کھانا-نَا + وں = کھاؤں (بخورم)

و اگر بعد از حذف علامت مصدر، حرفی دیگر باقی ماند «ئے» یا «یں» یا «و» یا «وں» را اضافه می‌کنیم مانند: دیکھنا-نَا + ئے = دیکھے (بینند) * دیکھنا-نَا + یں = دیکھیں (بینند) * دیکھو (بینید) * دیکھنا-نَا + و = دیکھو (بینم)

فعل مضارع						
جنس	واحد غائب	جمع غائب	واحد حاضر	جمع حاضر	واحد متکلم	جمع متکلم
مذکرو مؤثر	وہ آئے	وہ آئیں	تو آئے	تم آؤ-آپ آئیں	میں آؤں	ہم آئیں
ترجمہ	او بیاید.	آنها بیایند	تو بیایی	شما بیایید	من بیایم	ما بیاییم
مذکرو مؤثر	وہ سوئے	وہ سوئیں	تو سوئے	تم سوؤ-آپ سوئیں	میں سوؤں	ہم سوئیں
ترجمہ	او بخوابد.	آنها بخوابند	تو بخوابی	شما بخوابید	من بخوابم	ما بخوابیم
مذکرو مؤثر	وہ دیکھے	وہ دیکھیں	تو دیکھے	تم دیکھو-آپ دیکھیں	میں دیکھوں	ہم دیکھیں
ترجمہ	او ببیند.	آنها ببینند	تو ببینی	شما ببینید	من ببینم	ما ببینیم

درس بیست و سوم

فعل مستقبل (آیندہ)

فعل مستقبل (آیندہ): فعلی را گویند کہ بر انجام کاری در زمان آیندہ دلالت نماید مانند: احمد خط گئے گا: احمد
نامہ خواهد نوشت.

روش ساخت فعل مستقبل (آیندہ): با اضافه کردن «گا، گی، گے» در آخر فعل مضارع، فعل مستقبل ساخته می شود مانند: کھائے+ گا = کھائے (خواهد خورد)* کھائے+ گی = کھائے گی (خواهد خورد)* کھائیں+ گے = کھائیں گے (خواهد خورد)

فعل مستقبل						
جنس	واحد غائب	جمع غائب	واحد حاضر	جمع حاضر	واحد متکلم	جمع متکلم
ذکر	وہ آئے گا	وہ آئیں گے	تو آئے گا	تم آؤ گے- آپ آئیں گے	میں آؤں گا	ہم آئیں گے
مؤنث	وہ آئے گی	وہ آئیں گی	تو آئے گی	تم آؤ گی- آپ آئیں گی	میں آؤں گی	ہم آئیں گی
ترجمہ	او خواهد آمد.	آنها خواهند آمد.	تو خواہی آمد.	شما خواهید آمد.	من خواهم آمد.	ما خواهیم آمد.

درس بیست و چهارم

فعل امر

فعل امر: فعلی را گویند که در آن به انجام کاری دستور داده شود مانند: خط لکھ: نامه بنویس.

روش ساخت فعل امر: علامت مصدر «نا» را حذف می‌کنیم در صیغه واحد حاضر هیچ حرفی اضافه نمی‌کنیم و در بقیه صیغه‌ها «و» یا «ئے» یا «ئیں» را اضافه می‌کنیم مانند: کھانا - نا = کھا (بخور) * کھانا - نا + و = کھاؤ (بخورید) * کھانا - نا + ئے = کھائے (بخورد) * کھانا - نا + ئیں = کھائیں (بخورند)

نوت: فعل امر فقط چهار صیغه دارد.

فعل امر				
جمع غائب	واحد غائب	جمع حاضر	واحد حاضر	جنس
وہ آئیں	وہ آئے	تم آؤ-آپ آئیں	تو آ	مذكر و مؤنث
آنها بیایند.	او بیاید.	شما بیاید	تو بیا	ترجمه

درس بیست و پنجم

فعل نهی

فعل نهی: فعلی را گویند که در آن از انجام کاری منع شود مانند: خط مت لکھ: نامه ننویس.

روش ساخت فعل نهی: با اضافه کردن «نه» یا «مت» قبل از فعل امر، فعل نهی ساخته می‌شود مانند:

کھا: نه / مت کھا (نخور) * کھاؤ: نه / مت کھاؤ (نخورید) * کھائے: نه / مت کھائیں (نخورند)

نوت: فعل نهی فقط چهار صیغه دارد.

فعل نهی					
جمع غائب	واحد غائب	جمع حاضر	واحد حاضر	جنس	
وہ نہ آئیں	وہ نہ آئے	تم نہ آو - آپ نہ آئیں	تو نہ آ	مذکرو مؤنث	
وہ مت آئیں	وہ مت آئے	تم مت آو - آپ مت آئیں	تو مت آ	مذکرو مؤنث	
آنها نیايند.	او نیايد.	شما نیايد	تو نیا	ترجمہ	

درس بیست و ششم

فعل لازم و متعدد

فعل لازم فعلی را گویند که با فاعل تکمیل شود و به مفعول نیاز داشته باشد مانند: احمد آیا (احمد آمد)
فعل متعدد فعلی را گویند که با فاعل تکمیل نشود و به مفعول نیاز داشته باشد و عموماً بعد از آن علامت
«نے» می آید مانند: احمد نے کھانا کھایا (احمد غذا خورد)

روش‌های تبدیل کردن فعل لازم به فعل متعدد

- ۱- با اضافه کردن «الف» بعد از حرف دوم مصدر مانند: اترنا: اترنا - اچھلنا: اچھلنا - اکھرنا: اکھرنا
- ۲- با اضافه کردن «یا مجھوں» بعد از حرف دوم مصدر مانند: سمننا: سمننا - اکھرنا: اکھرنا - بکھرنا: بکھرنا
- ۳- با اضافه کردن «واو مجھوں» بعد از حرف دوم مصدر مانند: چبھنا: چبھنا
- ۴- اگر حرف سوم مصدر حرف علت باشد یعنی «الف» یا «و» یا «ی» باشد آن را حذف نموده و بجای آن
«لا» می آوریم مانند: نہلانا - دھونا : دھلانا

روش منفی ساختن فعل مثبت

با آوردن «نه» یا «نہیں» قبل از فعل در جمله مثبت، فعل منفی ساخته می شود مانند: آیا = نہیں آیا (نیامد) *

* کھاؤں = نہ کھاؤں (نخورم)

برای منفی ساختن ماضی تمنایی و فعل مضارع همیشه «نه» استفاده می شود مانند: احمد خط نہ کرے: احمد نامه
نویسد. - کاش فیصل نہ آتا (کاش فیصل نمی آمد)

فعل معروف و مجهول

فعل معروف فعلی را گویند که فاعلش مشخص باشد مانند: احمد نے خط لکھا: احمد نامه نوشت.

فعل مجهول فعلی را گویند که فاعلش مشخص نباشد مانند: خط لکھا گیا: نامه نوشته شد.

روش ساختن فعل مجهول: از هر مصدری که می خواهیم فعل مجهول بسازیم در آخر ماضی مطلق آن،
از مصدر «جانا» همان نوع فعل مجهول را می آوریم. مثلاً اگر خواستیم از مصدر «لانا» ماضی قریب مجهول
بسازیم در آخر ماضی مطلق که «لایا» باشد، ماضی قریب مصدر «جانا» را که «گیا ہے» باشد می آوریم مانند: لایا
+ گیا ہے = لایا گیا ہے (آورده شده است). و اگر خواستیم فعل حال مجهول بسازیم در آخر ماضی مطلق که
«لایا» باشد، فعل حال مصدر «جانا» را که «جاتا ہے» باشد می آوریم مانند: لایا + جاتا ہے = لایا جاتا ہے (آورده
می شود)

ماضی مطلق مجهول							
جنس	واحد غائب	جمع غائب	واحد حاضر	جمع حاضر	واحد متکلم	جمع متکلم	جنس
مذکور	وہ بھیجا گیا	وہ بھیجے گئے	تو بھیجا گیا	تم / آپ بھیجے گئے	میں بھیجا گیا	ہم بھیجے گئے	مذکور
مؤنث	وہ بھیجی گئی	وہ بھیجی گئیں	تو بھیجی گئی	تم / آپ بھیجی گئیں	میں بھیجی گئی	ہم بھیجی گئیں	مؤنث
ترجمہ	او فرستادہ	آنہا فرستادہ	تو فرستادہ	شما فرستادہ	من فرستادہ	شدیم	ما فرستادہ

ماضی قریب مجهول							
جنس	واحد غائب	جمع غائب	واحد حاضر	جمع حاضر	واحد متکلم	جمع متکلم	جنس
مذکور	وہ بھیجے گئے ہیں	وہ بھیجا گیا ہے	تو بھیج گئے ہیں	تم / آپ بھیج گئے ہیں	میں بھیجا گیا ہوں	ہم بھیجے گئے ہیں	مذکور
مؤنث	وہ بھیجی گئی ہیں	وہ بھیجی گئی ہے	تو بھیجی گئی ہے	تم / آپ بھیجی گئی ہیں	میں بھیجی گئی ہوں	ہم بھیجی گئی ہیں	مؤنث
ترجمہ	او فرستادہ	آنہا فرستادہ	تو فرستادہ	شما فرستادہ	من فرستادہ	شدہ ایم	ما فرستادہ

ماضی بعید مجهول							
جنس	واحد غائب	جمع غائب	واحد حاضر	جمع حاضر	واحد متکلم	جمع متکلم	جنس
مذکور	وہ بھیجے گئے تھے	وہ بھیجا گیا تھا	تو بھیج گئے تھے	تم / آپ بھیج گئے تھے	میں بھیجا گیا تھا	ہم بھیجے گئے تھے	مذکور
مؤنث	وہ بھیجی گئی تھیں	وہ بھیجی گئی تھیں	تو بھیجی گئی تھیں	تم / آپ بھیجی گئی تھیں	میں بھیجی گئی تھیں	ہم بھیجی گئی تھیں	مؤنث
ترجمہ	او فرستادہ	آنہا فرستادہ	تو فرستادہ	شما فرستادہ	من فرستادہ	شدہ بودیم	ما فرستادہ شدہ

ماضی تمنایی مجهول

جنس	واحد غائب	جمع غائب	واحد حاضر	جمع حاضر	واحد متکلم	جمع متکلم
مذکور	وہ بھیجا جاتا	وہ بھیجا جاتے	تو بھیجا جاتا	تم / آپ بھیجے جاتے	میں بھیجا جاتا	ہم بھیجے جاتے
مؤثر	وہ بھیجی جاتی	وہ بھیجی جاتیں	تو بھیجی جاتیں	تم / آپ بھیجی جاتیں	میں بھیجی جاتیں	ہم بھیجی جاتیں
ترجمہ	او	آنها	تو	شما	من	ما
	اگر / کاش	اگر / کاش	اگر / کاش	فرستادہ	اگر / کاش	اگر / کاش
	فرستادہ	فرستادہ	فرستادہ	می شدیں	فرستادہ	فرستادہ
	می شدند.	می شدیں	می شدی	می شد	می شد	می شدیں

فعل حال مجهول

جنس	واحد غائب	جمع غائب	واحد حاضر	جمع حاضر	واحد متکلم	جمع متکلم
مذکور	وہ بھیجا	وہ بھیجے	تو بھیجا	تم بھیجے جاتے ہو۔	میں بھیجا	ہم بھیجے
	جاتا ہے	جاتے ہیں	جاتا ہے	آپ بھیجے جاتے ہیں	جاتا ہوں	جاتے ہیں
مؤثر	وہ بھیجا	وہ بھیجے	تو بھیجا	تم بھیجے جارہے ہو۔	میں بھیجا	ہم بھیجے
	جارہا ہے	جارہے ہیں	جارہا ہے	آپ بھیجے جارہے ہیں	جارہا ہوں	جارہے ہیں
ترجمہ	وہ بھیجی	وہ بھیجی	تو بھیجی	تم بھیجی جاتی ہو۔	میں بھیجی	ہم بھیجی
	جاتی ہے	جاتی ہیں	جاتی ہے	آپ بھیجی جاتی ہیں	جاتی ہوں	جاتی ہیں
	وہ بھیجی	وہ بھیجی	تو بھیجی	تم بھیجی جارہی ہو۔	میں بھیجی	ہم بھیجی
	جارہی ہے	جارہی ہیں	جارہی ہے	آپ آرہی ہیں	جارہی ہوں	جارہی ہیں
ترجمہ	او فرستادہ	آنها فرستادہ	تو فرستادہ	شما فرستادہ می شوید	من فرستادہ	ما فرستادہ می شویم
	می شوند	می شوند	می شوی		می شوم	می شویم

فعل مضارع مجهول

جنس	واحد غائب	جمع غائب	واحد حاضر	جمع حاضر	واحد متكلم	جمع متكلم
مذکور	وہ بھیجا جائے	بھیجا جائے	تو	تم بھیجے جاؤ	میں بھیجا جاؤں	ہم بھیجے جائیں
مؤنث	وہ بھیجی جائے	بھیجی جائے	تو	تم بھیجی جاؤ	میں بھیجی جاؤں	ہم بھیجی جائیں
ترجمہ	او فرستادہ بشود۔	آنها فرستادہ بشوند	تو فرستادہ بشوی	شما فرستادہ بشوید	من فرستادہ بشوم	ما فرستادہ بشویں

فعل مستقبل (آیندہ) مجهول

جنس	واحد غائب	جمع غائب	واحد حاضر	جمع حاضر	واحد متكلم	جمع متكلم
مذکور	وہ بھیجا جائے گا	وہ بھیجے جاؤ گے	تو بھیجا جائے گا	تم بھیجے جاؤ گے	میں بھیجا جاؤں گا	ہم بھیجے جائیں گے
مؤنث	وہ بھیجی جائے گی	وہ بھیجی جائیں گی	تو بھیجی جائے گی	تم بھیجی جاؤ گی	میں بھیجی جاؤں گی	ہم بھیجی جائیں گی
ترجمہ	او فرستادہ خواهد شد۔	آنها فرستادہ خواهند شد۔	تو فرستادہ خواهی شد۔	شما فرستادہ خواهید شد۔	من فرستادہ خواهم شد۔	ما فرستادہ خواهیم شد۔

ماضی استمراری مجهول							
جنس	واحد غائب	جمع غائب	واحد حاضر	جمع حاضر	واحد متکلم	جمع متکلم	
مذکور	وہ	وہ	تو	تم / آپ	میں	ہم بھیجے جاتے تھے	
	وہ بھیجا	وہ بھیجے	تو بھیجا	بھیجا جاتا تھا	بھیجا جاتا تھا	بھیجا جاتا تھا	
مؤنث	وہ بھیجی	وہ بھیجی	تو بھیجی	تم / آپ بھیجی	میں بھیجی	ہم بھیجی جاتی تھیں	
	وہ بھیجی	وہ بھیجی	تو بھیجی	بھیجی جارہی تھیں	جارہی تھی	جارہی تھیں	
ترجمہ	او	آنها	تو	شما	من	ما	
	فرستادہ	فرستادہ	فرستادہ	فرستادہ	فرستادہ	فرستادہ	
	می شد.	می شدند	می شدی	می شدی	می شدم	می شدیم	

ماضی احتمالی مجهول							
جنس	واحد غائب	جمع غائب	واحد حاضر	جمع حاضر	واحد متکلم	جمع متکلم	
مذکور	وہ بھیجا	وہ بھیجے	تو بھیجا	تم / آپ	میں	ہم بھیجے گئے ہوں گے	
	گیا ہو گا	گئے ہوں گے	گیا ہو گا	بھیجے گئے ہوں گے	گیا ہو گا	گیا ہو گا	
مؤنث	وہ بھیجی	وہ بھیجی	تو بھیجی	تم / آپ بھیجی	میں بھیجی	ہم بھیجی گئی ہوں گی	
	گئی ہو گی	گئی ہوں گی	گئی ہو گی	بھیجی گئی ہوں گی	گئی ہو گی	گئی ہو گی	
ترجمہ	او	آنها	تو	شما	من	ما	
	شاید فرستادہ	شاید فرستادہ	شاید فرستادہ	شاید فرستادہ	شاید فرستادہ	شاید فرستادہ	
	شده باشد.	شده باشند.	شده باشی	شده باشی	شده باشم	شده باشیم	

درس بیست و هفتم

روش استعمال مصدر سکنا (توانستن)

ابتدا مصدری را که می‌خواهیم مصدر (سکنا) را با او استعمال کنیم، در جمله ذکر می‌کنیم و علامت مصدر (ن) را از آخر آن مصدر حذف می‌کنیم و دیگر هیچ نوع تغییری در آن نمی‌آوریم سپس مصدر (سکنا) را بعد از آن مصدر می‌آوریم و تمام تغییراتی را که برای ساختن افعال مختلف لازم می‌باشد در مصدر (سکنا) می‌آوریم نه آن مصدر دیگر. مثلاً ما می‌خواهیم مصدر (سکنا) را با مصدر (لانا) استعمال کنیم پس علامت مصدر (ن) را از آخرش حذف می‌کنیم و دیگر هیچ نوع تغییری در آن نمی‌آوریم و سپس مصدر (سکنا) را بعد از (ل) می‌آوریم و تمام تغییرات را در مصدر (سکنا) می‌آوریم مانند نقشه زیر:

توانسته بودم بیاورم	لاسکا ^{تھا}	توانسته ام بیاورم	لاسکا ^{ہے}	توانستم بیاورم	لاسکا
توانسته بودیم بیاوریم	لاسکتے ^{تھے}	توانسته ایم بیاوریم	لاسکتے ^{ہیں}	توانستیم بیاوریم	لاسکتے
آورده خواهم توانست	لاسکو ^{نگا}	می توانم بیاورم	لاسکتا ^{ہوں}	می توانستم بیاورم	لاسکتا ^{تھا}
آورده خواهیم توانست	لاسکتیں ^{گے}	می توانیم بیاوریم	لاسکتے ^{ہیں}	می توانستیم بیاوریم	لاسکتے ^{تھے}

درس بیست و هشتم

روش استعمال مصدر چاهنا (خواستن)

هر زمان مصدر (چاهنا) به تنهاي در جمله ذكر شود همانند مصدر ديجر ساخته می شود مانند: چاه: خواستم؛ چاهتا: می خواستم؛ چاهتا: می خواهم

اما هر زمان با مصدر ديجر در جمله ذكر شود روش استعمالش اين است که ابتدا مصدر را که می خواهيم (چاهنا) را با او استعمال کنيم، به صورت مصدر در جمله ذكر می کنيم و هیچ نوع تغييری در آن نمی آوريم سپس مصدر (چاهنا) را بعد از آن مصدر می آوريم و تمام تغييراتی را که برای ساختن افعال مختلف لازم می باشد در مصدر (چاهنا) می آوريم نه آن مصدر ديجر. مثلا ما می خواهيم مصدر (چاهنا) را با مصدر (لانا) استعمال کنيم پس (لانا) را به صورت مصدر ذكر می کنيم و هیچ نوع تغييری در آن نمی آوريم سپس مصدر (چاهنا) را بعد از (لانا) می آوريم و تمام تغييرات را در مصدر (چاهنا) می آوريم مانند نقشه زير:

می خواستم بياورم	لاناچاهتا	خواسته بودم بياورم	لاناچاهتا	خواستم بياورم	لاناچاهما
می خواستيم بياوريم	لاناچاهتے	خواسته بوديم بياوريم	لاناچاهتے	خواستيم بياوريم	لاناچاه
خواهم آورد	لاناچاونگا	می خواهم بياورم	لاناچاہرہاون	می خواهم بياورم	لاناچاهتا:هاون
خواهيم آورد	لاناچاھينگے	می خواهيم بياوريم	لاناچاہرہے:بیں	می خواهيم بياوريم	لاناچاهتے:بیں

درس بیست و نهم

روش استعمال فعل لکنا با افعال دیگر

هر زمان مصدر (لگنا) به تنهاي در جمله ذكر شود همانند مصدر دیگر ساخته می شود و به ۳۳ معنی می آيد که در فیروز اللغات صفحه ۱۱۶۱ ذکر شده است از قبیل: چسپیدن، وصل شدن، زخمی شدن، شعله ور شدن و ...
اما هر زمان با افعال دیگر در جمله ذکر شود فقط به معنای شروع کردن می آید و روش استعمالش این است که ابتدا مصدری را که می خواهیم (لگنا) را با او استعمال کنیم، در جمله ذکر می کنیم و الفی را که در آخر مصدر است حذف می کنیم و بجای آن یا مجھوں (ے) می آوریم و دیگر هیچ نوع تغییری در آن نمی آوریم سپس مصدر (لگنا) را بعد از آن مصدر می آوریم و تمام تغییراتی را که برای ساختن افعال مختلف لازم می باشد در مصدر (لگنا) می آوریم نه آن مصدر دیگر. مثلاً ما می خواهیم مصدر (لگنا) را با مصدر (لانا) استعمال کنیم پس الفی را که در آخر مصدر (لانا) است حذف می کنیم و بجای آن یا مجھوں (ے) می آوریم و دیگر هیچ نوع تغییری در آن نمی آوریم و سپس مصدر (لگنا) را بعد از (لانا) می آوریم و تمام تغییرات را در مصدر (لگنا) می آوریم مانند نقشه زیر:

آوردن را شروع کرده بودم	لانے لگا تھا	آوردن را شروع کرده ام	لانے لگا ہے	آوردن را شروع کردم	لانے لگا
آوردن را شروع کرده بودیم	لانے لگئے تھے	آوردن را شروع کرده ایم	لانے لگئے ہیں	آوردن را شروع کرديم	لانے لگئے
آوردن را شروع خواهم کرد	لانے لگوئا	آوردن را شروع می کنم	لانے لگتا ہوں	آوردن را شروع می کردم	لانے لگتا تھا
آوردن را شروع خواهیم کرد	لانے لگیں گے	آوردن را شروع می کنیم	لانے لگتے ہیں	آوردن را شروع می کرديم	لانے لگتے تھے

Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library